



آل احباب  
ع فی  
مناقب القراء

(اہل بیت اطہارؑ کے فضائل و مناقب)



خیر الاسلام الکنور محمد طاہر القاری



# آلِ حَابَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ

﴿اَهْلِ بَيْتِ اَطْهَارِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَفَالْفَضَالُ وَمَنَاقِبُ﴾

تألیف

شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادی

معاونین ترجمہ و تخریج:

فیض اللہ بغدادی، حافظ ظہیر احمد الاسنادی

منهج القرآن پبلی کیشنز

042-111-140-140، 35168514، فون: 365-ایم، ماؤن ٹاؤن لاہور،

یوسف مارکیٹ، غریب شریعت، اردو بازار، لاہور، فون: 37237695

[www.Minhaj.org-sales@Minhaj.org](mailto:www.Minhaj.org-sales@Minhaj.org)


## جملہ حقوقِ تحریک منہاج القرآن محفوظ ہیں

نام کتاب : **الإِجَابَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَائِبِ** علیہم السلام  
 آہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل و  
**مناقب**

تألیف :	شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
معاونین ترجمہ و تخریج :	فیض اللہ بغدادی، حافظ ظہیر احمد الائسانادی
ایہتمام اشاعت :	فرید ملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ Research.com.pk
مطبع :	منہاج القرآن پرہنڑ، لاہور
اشاعتِ اول :	(2,200) اپریل 2006ء
اشاعتِ دوم :	(1,100) اکتوبر 2006ء
اشاعتِ سوم :	(1,100) مارچ 2008ء
اشاعتِ چہارم :	(1,100) اگست 2010ء



نوٹ : شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف اور خطبات و یکھر زکی کیسٹس اور CDs سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی ان کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔  
 (ڈائریکٹر منہاج القرآن پبلیکیشنز)



مَوْلَائِي صَلَّ وَسَلَّمُ دَآئِمًا أَبَدًا  
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ  
وَالآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ فَهُمْ  
أَهْلُ التَّقْىٰ وَالنَّقْىٰ وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس او (پی۔۱-۲-۸۰) پی آئی وی،  
موئر خہ ۳۱ جولائی ۱۹۸۳ء؛ حکومتِ بلوچستان کی چھٹی نمبر ۷-۸-۲۰-۲ جزل وايم  
/۲-۹۷۰، موئر خہ ۲۶ دسمبر ۱۹۸۷ء؛ حکومتِ شمال مغربی سرحدی صوبہ کی  
چھٹی نمبر ۱۱-۲۳۳۱-۲۷ این۔۱/۱ے ڈی (لائریری)، موئر خہ ۲۰ اگست ۱۹۸۲ء؛  
اور حکومتِ آزاد ریاست جموں و کشمیر کی چھٹی نمبر س ت / انتظامیہ ۱۳-۶۱-۸۰/۲۰۹۲،  
موئر خہ ۲ جون ۱۹۹۲ء کے تحت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف  
کردہ کتب تمام تعلیمی اداروں کی لائبریریوں کے لیے منظور شدہ ہیں۔

# فہرست

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٢٣	<p style="text-align: center;"><u><b>البَابُ الْأَوَّلُ:</b></u></p> <p style="text-align: center;">مَنَاقِبُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَقَرَابَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ</p> <p>(حضرور ﷺ کے اہل بیت اور قرابت داروں کے مناقب)</p>	
٢٥	<p style="text-align: center;">فَصْلٌ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ</p> <p>(حضرور ﷺ کی اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کا بیان)</p>	١.
٣١	<p style="text-align: center;">فَصْلٌ فِي حَثِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حُبِّهِمْ عَلِيِّمٍ</p> <p>(حضرور ﷺ کا لوگوں کو اپنے اہل بیت سے محبت کی ترغیب دینے کا بیان)</p>	٢.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٤٢	<p>فَصْلٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا          لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ</p> <p>﴿ حضور ﷺ کی اتباع میں آپ ﷺ کے اہل بیت پر درود بھیجنے کا بیان ﴾</p>	٣.
٤٧	<p>فَصْلٌ فِي بِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ          وَجَزَائِهِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ</p> <p>﴿ حضور ﷺ کا اپنے اہل بیت کو جنت کی بشارت دینے اور ان سے نیکی کرنے والوں کو جزاء دینے کا بیان ﴾</p>	٤.
٤٩	<p>فَصْلٌ فِي أَنَّهُمْ أَمَانٌ وَنَجَاهَةٌ لِأَمْمَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ</p> <p>﴿ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا آپ ﷺ کی امت کے لئے باعثِ امان اور نجات ہونے کا بیان ﴾</p>	٥.
٥٤	<p>فَصْلٌ فِي تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ مِنْ بُغْضِهِمْ          وَعَدَاؤِهِمْ</p>	٦.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٦١	<p>﴿ حضور ﷺ کا اپنے اہل بیت سے بغض و عداوت رکھنے سے ڈرانے کا بیان ﴾</p> <p>﴿ فَصُلْ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْقُرَابَةِ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ﴾</p> <p>﴿ اہل بیتِ اطہار علیہم السلام کے جامع مناقب کا بیان ﴾</p> <p><u>البابُ الثَّانِي:</u></p>	٧.
٧٣	<p>مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کے مناقب</p>	
٧٥	<p>﴿ فَصُلْ فِي كَوْنِ آلِ فَاطِمَةَ سلام اللہ علیہا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَهْلِ كَسَاءٍ ﴾</p> <p>﴿ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھرانے کا اہل بیت اور اہل کسائے ہونے کا بیان ﴾</p>	١.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٧٩	<p>فَصْلٌ فِي كَوْنِهَا سلام الله عليها بَضْعَةً مِنْ رَسُولِ          اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p> <p>﴿سیدہ فاطمہ سلام الله علیہا کا لخت جگرِ مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہونے کا          بیان﴾</p>	٢.
٨٥	<p>فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهَا سلام الله علیہا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p> <p>﴿حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ سلام الله علیہا کے          مقام و مرتبہ کا بیان﴾</p>	٣.
٩٣	<p>فَصْلٌ فِي كَوْنِهَا سلام الله علیہا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ</p> <p>﴿سیدہ فاطمہ سلام الله علیہا کا سارے جہانوں کی عورتوں          کی سردار ہونے کا بیان﴾</p>	٤.
٩٩	<p>فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَاجِهَا سلام الله علیہا</p> <p>﴿سیدہ فاطمہ سلام الله علیہا کی شادی سے متعلق امور کا          بیان﴾</p>	٥.
١٠٤	<p>فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهَا سلام الله علیہا يَوْمُ الْقِيَامَةِ</p>	٦.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
١١٠	<p>﴿ روز قیامت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبہ کا بیان ﴾</p> <p>﴿ فَصُلْ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ سلام اللہ علیہا</p>	٧.
١٢٣	<p>﴿ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جامع مناقب کا بیان ﴾</p> <p><u>الْبَابُ الْثَالِثُ :</u></p> <p>﴿ مَنَاقِبُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كرم اللہ وجہہ</p>	
١٢٥	<p>﴿ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے مناقب ﴾</p> <p>﴿ فَصُلْ فِي كَوْنِهِ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَصَلَّى</p>	١.
١٣٠	<p>﴿ حضرت علیؑ کی قبول اسلام اور نماز پڑھنے میں اولیت کا بیان ﴾</p> <p>﴿ فَصُلْ فِي مَكَانِهِ أَعْنَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ</p>	٢.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
١٤٥	<p>﴿بَارِگاہِ رسالت میں حضرت علی ﷺ کے مقام و مرتبہ کا بیان﴾</p> <p><b>فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ</b></p> <p>﴿حضرت علی ﷺ کا اہل بیت رسول ﷺ میں سے ہونے کا بیان﴾</p>	٣
١٥١	<p><b>فَصْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيِّ مَوْلَاهٌ</b></p> <p>﴿فرمانِ مصطفیٰ ﷺ: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے﴾</p>	٤
١٦٨	<p><b>فَصْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْعَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي</b></p> <p>﴿احبٌ علی ﷺ حبٌ مصطفیٰ ﷺ اور بغضٌ علی ﷺ بغضٌ مصطفیٰ ﷺ ہونے کا بیان﴾</p>	٥
١٧٤	<p><b>فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهِ ﷺ الْعِلْمِيَّةِ</b></p>	٦

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
١٧٧	<p>﴿ حضرت علی ﷺ کے علمی مقام و مرتبہ کا بیان ﴾</p> <p>﴿ فَصُلْ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ ﴾</p> <p>﴿ حضرت علی ﷺ کی جامع صفات اور مناقب کا بیان ﴾</p> <p style="text-align: center;"><u>الْبَابُ الرَّابُعُ:</u></p>	٧
١٩٣	<p><b>مَنَاقِبُ الْحَسَنَيْنِ</b> علیہما السلام</p> <p>﴿ حسین کریمین علیہما السلام کے مناقب ﴾</p>	
١٩٥	<p>﴿ فَصُلْ فِي تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمَا وَأَذَانِهِ فِي أُذُنِهِمَا وَعَقِيقَتِهِ عَنْهُمَا علیہما السلام</p> <p>﴿ حضور ﷺ کا حسین کریمین علیہما السلام کا نام رکھنے، ان کے کانوں میں اذان دینے اور ان کی طرف سے عقیقه کرنے کا بیان ﴾</p>	١

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٢٠٠	<p><b>فَصْلٌ فِي أَنَّهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتِ وَخَيْرٌ</b>  <b>النَّاسِ نَسَبًا</b></p> <p>﴿حسین کریمین علیہما السلام کا اہل بیت میں سے ہونے اور نسب کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بہتر ہونے کا بیان﴾</p>	٢.
٢١٠	<p><b>فَصْلٌ فِي كَوْنِ حُبِّهِمَا حُبَّ النَّبِيِّ وَبُغْضِهِمَا</b>  <b>بُغْضَ النَّبِيِّ ﷺ</b></p> <p>﴿حسین کریمین علیہما السلام سے محبت حضور ﷺ سے محبت اور ان سے بغض حضور ﷺ سے بغض ہونے کا بیان﴾</p>	٣.
٢١٣	<p><b>فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ</b></p> <p>﴿حضور ﷺ کی بارگاہ میں حسین کریمین کے مقام و مرتبہ کا بیان﴾</p>	٤.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٢٢٣	<p>فَصُلْ فِيمَنْ أَحَبَّهُمَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ</p> <p>﴿اللَّهُ تَعَالَى﴾ کا حسین کریمین علیہما السلام سے محبت رکھنے والوں کو جنت اور ان سے بغض رکھنے والوں کو دوزخ میں داخل کرنے کا بیان﴾</p>	٥.
٢٢٦	<p>فَصُلْ فِي مَكَانِتِهِمَا علیہما السلام فِي الْجَنَّةِ</p> <p>﴿حسین کریمین علیہما السلام کا جنت میں مقام و مرتبہ﴾</p>	٦.
٢٣١	<p>فَصُلْ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِمَا وَمَنَاقِبِهِمَا علیہما السلام</p> <p>﴿حسین کریمین علیہما السلام کی جامع صفات اور مناقب کا بیان﴾</p> <p style="text-align: right;">الْبَابُ الْخَامِسُ:</p>	٧.
٢٤١	<p>مَنَاقِبُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهم</p>	

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٢٤٣	<p>﴿أَمْهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ كَمَنَاقِبِ﴾</p> <p>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p> <p>﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَنَاقِبِ﴾</p> <p>بِيَان﴾</p>	١.
٢٥٨	<p>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا</p> <p>﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَنَاقِبِ﴾</p> <p>بِيَان﴾</p>	٢.
٢٧٨	<p>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا</p> <p>﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَنَاقِبِ﴾</p> <p>بِيَان﴾</p>	٣.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٢٨١	<b>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ اُمِّ سَلَمَةَ</b> رضي الله عنها ﴿اُمُّ المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی الله عنہا کے مناقب کا بیان﴾	٤.
٢٨٤	<b>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ اُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ اَبِي سُفِيَّانَ</b> رضي الله عنہما ﴿اُمُّ المؤمنین حضرت اُم حبیبہ رضی الله عنہا کے مناقب کا بیان﴾	٥.
٢٨٧	<b>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سُودَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ</b> رضي الله عنها ﴿اُمُّ المؤمنین حضرت سودہ رضی الله عنہا کے مناقب کا بیان﴾	٦.
٢٨٩	<b>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ</b> رضي الله عنها	٧.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٢٩٣	<p>﴿أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ نَبِيْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾</p> <p>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p>	٨.
٢٩٤	<p>﴿أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾</p> <p>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p>	٩.
٢٩٦	<p>﴿أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾</p> <p>فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُسَيْنِ بْنِ أَخْطَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا</p>	١٠.
	<p>﴿أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾</p>	

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
	<b>الْبَابُ السَّادِسُ:</b>	
٢٩٩	<p><b>مَنَاقِبُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ الْمَهْدِيِّ</b> ﷺ</p> <p>﴿امام محمد مهدی ﷺ کے مناقب﴾</p>	
٣٠١	<p><b>فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ</b> ﷺ <b>مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ</b></p> <p>﴿سیدنا امام مهدی ﷺ کا اہل بیت اظہار میں سے ہونے کا بیان﴾</p>	١.
٣٠٤	<p><b>فَصْلٌ فِي عَلَامَاتِ ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ</b> ﷺ</p> <p>﴿سیدنا امام مهدی ﷺ کے ظہور کی علامات کا بیان﴾</p>	٢.
٣١١	<p><b>فَصْلٌ فِي أَدَاءِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ</b> علیہما السلام</p> <p>صَلَّاهُهُ وَرَأَاهُ</p>	٣.
	<p>﴿حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا امام مهدی ﷺ کے پیچھے نماز ادا کرنے کا بیان﴾</p>	

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٣١٥	<p>فَصْلٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا</p> <p>﴿سیدنا امام مہدی ﷺ کا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا بیان﴾</p>	٤.
٣١٩	<p>فَصْلٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَكُونُ خَلِيفَةً اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ</p> <p>﴿سیدنا امام مہدی ﷺ کے علی الاطلاق خلیفۃ اللہ ہونے کا بیان﴾</p>	٥.
٣٢٥	<p>فَصْلٌ فِي أَنَّ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ تُعَمِّمُ فِي وِلَايَتِهِ نِعْمَةً لَمْ تُعَمِّمَهَا قَطُّ</p> <p>﴿سیدنا امام مہدی ﷺ کی خلافت میں اُمّتٍ محمدیہ کو وہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو اسے کبھی حاصل نہ ہوئی ہوں گی﴾</p>	٦.
٣٢٩	<p>فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ</p>	٧.

الصفحة	الأبواب والالفصول	الرقم
٣٣٥	<p>﴿سیدنا امام مہدی ﷺ کی جامع صفات اور مناقب کا بیان﴾</p> <p>مصادر التحریج</p> 	



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا مَوْدَةٌ  
فَإِذَا دَعَاهُمْ فَلَا يَرْجِعُونَ

ط۔

”فرمادیجیے: میں اس (تبیغ رسالت) پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر  
(میری) قرابت (اور اللہ کی قربت) سے محبت (چاہتا ہوں)۔“  
(الشوری، ۳۲: ۲۳)



## الْبَابُ الْأَوَّلُ:

مَنَاقِبُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَقَرَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

حضرور ﷺ کے اہل بیت اور قرابت داروں علیہم السلام کے مناقب



## ۱. فَصْلٌ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَام

﴿ حضور ﷺ کی اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کا بیان ﴾

۱/۱. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنَّ عَيْتَنِي أَلَّا يَوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ كَرَشَيِ الْأَنْصَارُ. فَاعْفُوا عَنْ مُسِيءِهِمْ وَاقْبِلُوهُمْ مُحْسِنِهِمْ.

رواۃ الترمذی وابن أبي شیبة، وقال أبو عیسیٰ: هَذَا حَدِیثُ حَسَنٌ.

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ! میرا جامہ دان جس سے میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہیں۔ ان کے بُرُوں کو معاف کر دو اور ان کے نیکوکاروں سے (اچھائی کو) قبول کرو۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے نیز امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔

۲/۲. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمْ

۱: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب في فضل الأنصار

وقدريش، ٧١٤/٥، الرقم: ٣٩٠٤، وابن أبي شيبة في المصنف،

٣٩٩/٦، الرقم: ٣٢٣٥٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثناني،

٣٣٢/٣، الرقم: ١٧١٦، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٢٥٢/٢۔

۲: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٨١/٥، الرقم: ٢١٦١٨،

والهيثمي في مجمع الروايد، ١٦٢/٩۔

**خَلِيفَتَيْنِ:** كِتَابَ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. أُوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتَرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

”حضرت زید بن ثابت ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک میں تم میں دوناں بچوں کو جارہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی (کی طرح) ہے اور میری عترت یعنی میرے اہل بیت اور یہ کہ یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔“ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٣/٣. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: افْتَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرًا بِكَوَافِرِ مَكَّةَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصِرَهُمْ ثَمَانِيَّةُ أَوْ سَبْعَةُ، ثُمَّ أَوْعَلَ غَدْوَةً أَوْ رُوحَةً ثُمَّ نَزَلَ ثُمَّ هَجَرَ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لِكُمْ فَرَطٌ وَإِنِّي أُوْصِيُّكُمْ بِعِتَرَتِي خَيْرًا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ ..... الحدیث.

رواهة الحاکم، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

”حضرت عبد الرحمن بن عوف ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مکہ فتح کیا پھر طائف کا رخ کیا اور اس کا آٹھ یا سات دن محاصرہ کئے رکھا پھر صحیح یا شام کے وقت اس میں داخل ہونے پہنچنے پڑا اور اس کیا پھر بھرت فرمائی اور فرمایا: اے لوگو! بے شک میں تمہارے لئے تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا اور بے شک میں تمہیں اپنی عترت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہو گا..... الحدیث۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

٤/٤. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاهَا النَّاسُ، إِنِّي تَارِكٌ فِيهِمْ أَمْرِيْنِ لَنْ تَضَلُّوا إِنْ تَبَعْتُمُوهُمَا، وَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ، وَأَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِي. ثُمَّ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْيِ مَوْلَاهُ.

**رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.**

"حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کو عزیز ہوں آپ ﷺ نے ایسا تین مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس کا میں مولی ہوں علی بھی اس کا مولی ہے۔"

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

٥/٥. عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قَرَابُتَكَ هُوُ لَاءُ الدِّينِ وَجَبَثَ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: عَلَيْيِ وَفَاطِمَةُ

٤: آخرجه الحاکم في المستدرک، ١١٨/٣، الرقم: ٤٥٧٧ -

٥: آخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٤٧/٣، الرقم: ٢٦٤١، والهشمي في مجمع الزوائد، ١٦٨/٩ -

وَابْنَاهُمَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ .

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت: ﴿فُلْ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے (حسن و حسین)۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٦/٦ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَوَايَةِ طَوِيلَةٍ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِي التَّشْقَلِينَ . فَنَادَى مُنَادٍ وَمَا النَّشَقَلَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ طَرَقٌ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَقٌ بِيَدِ بُنْدُبُكُمْ فَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ لَا تَضْلُلُوْا ، وَالآخَرُ عِتْرَتِي وَإِنَّ الْلَّطِيفَ الْخَيْرَ نَبَانِي أَنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ، سَأَلَتْ رَبِّي ذَلِكَ لَهُمَا ، فَلَا تَقْدُمُوْهُمَا فَتَهْلِكُوْا ، وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوْا ، وَلَا تَعْلَمُوْهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ ثُمَّ أَخْذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ : مَنْ كُنْتُ أُولَئِي بِهِ مِنْ نَفْسِي فَعَلَيَّ وَلِيُّهُ ، اللَّهُمَّ وَالَّذِي لَمْ يَعْلَمْ مِنْ عَادًا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ .

”حضرت زید بن ارقم رض ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ پس ایک نداء دینے والے نے ندا دی، یا رسول اللہ! وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنوار اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنوار تمہارے

ہاتھوں میں ہے پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھا مے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے اور دوسری چیز میری عترت ہے اور بے شک اس لطیف خیر رب نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض پر حاضر ہوں گی اور ایسا ان کے لئے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ پس تم لوگ ان پر پیش قدی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولی ہے اے اللہ! جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٧/٧. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهَا سَبْعَ عَشَرَةَ، أَوْ تُسْعَ عَشَرَةَ، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَوْ صِيمُكُمْ بِعِتْرَتِي خَيْرًا، وَأَنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِتُقْيِمُنَ الصَّلَاةَ وَلِتُؤْتُنَ الزَّكَاةَ، أَوْ لَا بَعْثَنَ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِّي. أَوْ كَنْفِسِي يَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ ثُمَّ أَحَدَبِيَدِ عَلَيِّ ﷺ فَقَالَ: بِهَذَا. رَوَاهُ الْبِزارُ.

”حضرت مصعب بن عبد الرحمن بن عوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے مکہ فتح کیا اس کے بعد آپ ﷺ طائف کی طرف روانہ ہوئے اور آپ ﷺ نے سترہ دن یا انہیں دن طائف کا محاصرہ کئے رکھا پھر آپ ﷺ خطاب کے

لئے کھڑے ہوئے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا: میں اپنی عترت کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہو گا اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے یا میں تمہاری طرف ایک ایسے آدمی کو سمجھوں گا جو مجھ میں سے ہے یا میری طرح کا ہے اور جو تمہاری گرد نیں مارے گا پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اس آدمی سے میری مراد یہ ہے۔“  
اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔



## ۲. فَصْلٌ فِي حَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ عَلَى حُبِّهِمْ عَلَيْهِمْ السلام

﴿حضور ﷺ کا لوگوں کو اپنے اہل بیت سے محبت کی ترغیب﴾

﴿دینے کا بیان﴾

۸/۸. عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يُغْدُوُكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحِبُّوْنِي بِحُثِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَأَحِبُّوْا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي.

رواء الترمذی والحاکم، وقال أبو عیسیٰ: هذا حديث حسن.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ سے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان غمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا نیز امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

٨: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب أهل البيت  
النبي ﷺ، ٦٦٤/٥، الرقم: ٣٧٨٩، والحاکم في المستدرک  
١٦٢/٣، الرقم: ٤٧١٦، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣٦٦/١  
الرقم: ٤٠٨۔

٩/٩. عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي قَطْعُونَ حَدِيثُهُمْ، فَذَكَرُنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا بَأْلُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ إِذَا رَأَوْا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَّاعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللَّهُ، لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ إِيمَانٌ حَتَّى يُحَبَّهُمُ اللَّهُ وَلَقَرَابَتِهِمْ مِنِّي. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت عباس بن عبد المطلب ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے ہم نے حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی قسم! کسی شخص کے دل میں اس قت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میرے قربات کی وجہ سے محبت نہ کرے۔“  
اسے امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

١٠/١٠. عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قُرَيْشًا إِذَا لَقَيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَقُوْهُمْ بِبَشِّرِ حَسَنٍ، وَإِذَا لَقُوْنَا

- ٩: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب فضل العباس بن عبد المطلب ﷺ، ١/٥٠، الرقم: ٤٠، والحاكم في المستدرك، ٤/٨٥، الرقم: ٦٩٦٠، والمقدس في الأحاديث المختارة، ٨/٣٨٢، الرقم: ٤٧٢، والديلمي في مسنن الفردوس، ٤/١١٣، الرقم: ٦٣٥٠ والسيوطى في شرح سنن ابن ماجة، ١/١٣، الرقم: ١٤٠۔
- ١٠: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/٢٠٧، الرقم: ١٧٧٢۔

لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا. قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ طَلْحَةَ إِبْرَاهِيمَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ إِيمَانٌ حَتَّى يُحَبَّكُمُ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ طَلْحَةَ إِبْرَاهِيمَ وَلِقَرَابَتِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالحاكِمُ وَالبَزَارُ.

وفي رواية: قال: والله، لا يَدْخُلُ قَلْبَ امْرِيَّ إِيمَانٌ حَتَّى يُحَبَّكُمُ اللَّهُ وَلِقَرَابَتِي.

”حضرت عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت طلحة بن ابی ایوب میں عرض کیا: یا رسول اللہ! قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو (جدبات سے عاری) ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طلحة بن ابی ایوب یہ سن کر شدید جلال میں آگئے اور فرمایا: اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طلحة بن ابی ایوب اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔“

اسے امام احمد، نسائی، حاکم اور بزار نے روایت کیا ہے۔

”ایک روایت میں ہے کہ فرمایا: خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے۔“

.....  
١٧٧٧، ١٧٦٥٦، ١٧٦٥٧، ١٧٦٥٨، ١٧٦٥٩، ١٧٦٥٧، ١٧٦٥٦، والحاكم في المستدرك،  
٣٧٦/٣، الرقم: ٥٤٣٣، ٢٩٦٠، والنسائي في السنن الكبير،  
٥١/٥ الرقم: ٨١٧٦، والبزار في المسند، ١٣١/٦، الرقم: ٢١٧٥  
والبيهقي في شعب الإيمان، ١٨٨/٢، الرقم: ١٥٠١، والديلمي في  
مسند الفردوس، ٣٦١/٤، الرقم: ٧٠٣٧۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: مَا بَأْلُ رِجَالٍ يَقُولُونَ: إِنَّ رَحْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْفَعُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلَى وَاللَّهِ، إِنَّ رَحْمِي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَأَنِّي أَئُهَا النَّاسُ، فَرَطْ لَكُمْ عَلَى الْحُوْضِ فَإِذَا جِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا فُلَانُ بْنُ فَلَانٌ وَقَالَ: يَتَحَقَّقُ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٌ وَقَالَ لَهُمْ: أَمَّا النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ وَلَكِنْكُمْ أَحْدَثْتُمْ بَعْدِي وَأَرْتَدْتُمُ الْقَهْقَرِيَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالحاكمُ.

”حضرت ابوسعید خدری ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے کو منبر پر فرماتے ہوئے سننا ان لوگوں کا کیا ہو گا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ سے نسبی تعلق قیامت کے روز ان کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں! اللہ کی قسم بے شک میرا نسبی تعلق دنیا و آخرت میں آپس میں باہم ملا ہوا ہے اور اے لوگو! بے شک (قیامت کے روز) میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا پس جب تم آگئے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ! میں فلاں بن فلاں ہوں پس حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس کا فلاں بن فلاں کہنا پایہ ثبوت کو پہنچے گا اور رہا نسب تو تحقیق اس کی پہچان میں نے تمہیں کرا دی ہے لیکن تم میرے بعد تم احداث کرو گے اور الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

١١: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٨/٣، الرقم: ١١٥٤  
والحاكم في المستدرك، ٤/٨٤، الرقم: ٦٩٥٨، وأبو يعلى في المسند، ٤٣٣/٢، الرقم: ١٢٣٨، والهيثمي في مجمع الزوائد،

١٢/ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

خَيْرُكُمْ، خَيْرُكُمْ لَا هُلْيَ مِنْ بَعْدِي. رَوَاهُ الْحَاكَمُ وَأَبُو يَعْلَى.

”حضرت ابو هریرہ رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لئے بہترین ہے۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور ابو یعلی نے بیان کیا ہے۔

١٣/ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِي

أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَعَتَرْتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَتْرَتِهِ. وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

ذَاتِهِ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

”حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلی رض اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور

١٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣٥٢/٣، الرقم: ٥٣٥٩، وأبو يعلى

في المسند، ١٠/٣٣٠، الرقم: ٥٩٢٤، وابن أبي عاصم في السنّة،

٦١٦/٢، الرقم: ١٤١٤، والديلمي في مسنّ الفردوس، ٢/١٧٠،

الرقم: ٣٧٦٥، والخطيب في تاريخ بغداد، ٧/٢٧٦، الرقم: ٢٨٥١،

والمناوي في فيض القدير، ٣/٤٩٧، والهيثمي في مجمع الزوائد،

٩/١٧٤ -

١٥: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٧/٧٥، الرقم: ٦٤١٦، وفي

المعجم الأوسط، ٦/٥٩، الرقم: ٥٧٩٠، والبيهقي في شعب

الإيمان، ٢/١٨٩، الرقم: ١٥٠٥، والديلمي في مسنّ الفردوس،

١/٥٤، الرقم: ٧٧٩٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٨٨ -

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محظوظ تر نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محظوظ تر نہ ہو جائیں اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محظوظ نہ ہو جائے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محظوظ تر نہ ہو جائے۔“

اسے امام طبرانی اور یہیقی نے روایت کیا ہے۔

١٤/١٤ . عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْزِمُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ تَبَّعَكَ وَهُوَ يَوْدُنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَنْفَعُ عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقَّنَا.  
رواہ الطبرانی.

”حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

١٥/١٥ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمٌ تَخْدُمُهُمْ يُقالُ لَهَا: بَرِيرَةُ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ،

١٤: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٣٦٠، الرقم: ٢٢٣٠، والهيثمي في مجمع الروايد، ٩/٧٢ - ١٧٢.

١٥: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥/٢٠٣، الرقم: ٨٢٥، والهيثمي في مجمع الروايد، ١٠/٣٧٦ - ٣٧٦.

غَطَّى شَعِيقَاتِكِ، فَإِنَّ مُحَمَّداً لَنْ يُغْنِيَ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً قَالَ: فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَخَرَجَ يَجْرُرِ رِدَاءَهُ مُحَمَّراً وَجَنَّتاً، وَكُنَّا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ نَعْرَفُ غَضَبَهُ بِجَرِرِ رِدَائِهِ وَحُمْرَةِ وَجَنَّتِيهِ. فَأَخْذَنَا السِّلاحَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُؤْنَةً بِمَا شِئْتَ، فَوَالَّذِي بَعْنَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ أَمْرُتَنَا بِأَمْهَاتِنَا وَآبَائِنَا وَأَوْلَادِنَا، لَأَمْضِيَنَا قَوْلَكَ فِيهِمْ، فَصَاعَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَشْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ: مَنْ أَنَا؟، فَقُلْنَا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: نَعَمُ، وَلَكُنْ مَنْ أَنَا؟ فَقُلْنَا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ. قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرٌ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ، وَأَوَّلُ مَنْ يُنْفَصِّلُ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ وَلَا فَخْرٌ، وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرٌ، مَا بَالُ أَفْوَامِ يَزْعَمُونَ أَنَّ رَحْمِي لَا تَنْفَعُ. لَيْسَ كَمَا زَعَمُوا، إِنِّي لَا شَفْعُ وَلَا شَفَعٌ، حَتَّى أَنَّ مَنْ أَشْفَعَ لَهُ لَيَشْفَعُ فَيُشَفَّعُ، حَتَّى إِنِّي لَيَتَطَوَّلُ طَمْعاً فِي الشَّفَاعَةِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول ﷺ کی ایک خادمہ تھی جوان کی خدمت بجا لاتی اے ”بریرہ“ کہا جاتا تھا پس اسے ایک آدمی ملا اور کہا: اے بریرہ اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو بے شک محمد ﷺ تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ راوی بیان کرتے ہیں پس اس نے حضور نبی اکرم ﷺ کو اس واقع کی خبر دی پس آپ ﷺ اپنی چادر کو گھستیتے ہوئے باہر تشریف لائے درآں حمالیکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی دونوں رخسار مبارک سرخ تھے اور ہم (انصار کا

گروہ) حضور ﷺ کے غصے کو آپ ﷺ کے چادر کے گھٹئے اور رخساروں کے سرخ ہونے سے پہچان لیتے تھے پس ہم نے اسلحہ اٹھایا اور حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آگئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیں پس اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ معمouth فرمایا ہے! اگر آپ ہمیں ہماری ماوں، آباء اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی حکم فرمائیں گے تو ہم ان میں بھی آپ ﷺ کے قول کو نافذ کر دیں گے پس آپ ﷺ منبر پر تشریف فرماء ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا: میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: آپ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں حضرت آدم ﷺ کی اولاد کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں، میں وہ پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رحم (نسب و تعلق) فائدہ نہیں دے گا ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں۔ بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہو گی یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا اور اس کی بھی شفاعت قبول ہو گی یہاں تک کہ ابھی بھی اپنی گردن کو بلند کرے گا شفاعت میں طمع کی غاطر (یا کسی طور اس کی شفاعت بھی کوئی کر دے)۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

۱۶. عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتَ وَشِيعَتُكَ تَرْدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ رُوَاءَ مُرَوَّيْنَ، مُبَيَّضَةً وَجُوْهُكُمْ.

وَإِنَّ عَدُوكَ يَرِدُونَ عَلَىٰ ظُمَاءَ مُقْبَحِينَ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ابو رافع رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رض سے فرمایا: اے علی! تو اور تیرے (چاہنے والے) مدگار (قیامت کے روز) میرے پاس حوض کوثر پر چھرے کی شادابی اور سیراب ہو کر آئیں گے اور ان کے چھرے (نور کی وجہ سے) سفید ہوں گے اور بے شک تیرے دشمن (قیامت کے روز) میرے پاس حوض کوثر پر بدنما چھروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

١٧/١٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا سَمِّيَتْ بِنْتِي فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَطَمَهَا وَفَطَمَ مُحَمَّدًا عَنِ النَّارِ.  
رَوَاهُ الدَّيْلِمِيُّ.

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے چھڑا (اور بچا) لیا ہے۔“  
اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

١٨/١٨. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُبُّ آلِ

١٧: أخرجه الديلمي في مسنـد الفردوس، ٣٤٦/١، الرقم: ١٣٨٥  
والخطيب في تاريخ بغداد، ٣٣١/١٢، والمناوي في فيض القديـر،  
٤٣٢/٣

١٨: أخرجه الديلمي في مسنـد الفردوس، ١٤٢/٢، الرقم: ٢٧٢١

مُحَمَّدٌ يَوْمًا، خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.  
رواءُ الدَّيْلِمِيُّ.

”حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔“  
اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

١٩/١٩. عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا خَمْسٌ مَنْ أُوتِيهِنَّ لَمْ يُقْدِرْ عَلَى تَرْكِ عَمَلِ الْآخِرَةِ زَوْجَةُ صَالِحَةٍ وَبَنُونَ أَبْرَارٍ وَحَسَنُ مُخَالَطَةُ النَّاسِ وَمَعِيشَةُ فِي بَلْدِهِ وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. رواءُ الدَّيْلِمِيُّ.

”حضرت زید بن ارقم سے مرفوعاً روایت ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا (اور وہ پانچ چیزیں یہ ہیں): نیک بیوی، نیک اولاد، لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت اور اپنے ملک میں روزگار اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔“ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

٢٠/٢٠. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما رَفِعَهُ: أَنَا شَجَرَةٌ، وَفَاطِمَةٌ حَمْلُهَا، وَعَلِيٌّ لِقَاحُهَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمُرُهَا، وَالْمُحْبُونُ أَهْلُ الْبُيْتِ وَرُقُهَا، هُمُ فِي الْجَنَّةِ حَقًا حَقًا. رواءُ الدَّيْلِمِيُّ.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی

١٩: أخرجه الديلمي في مسنن الفردوس ، ١٩٦/٢ ، الرقم: ٢٩٧٤ -

٢٠: أخرجه الديلمي في مسنن الفردوس ، ٥٢/١ ، الرقم: ١٣٥ -

اکرم ﷺ نے فرمایا: میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے اور حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق ہیں وہ یقیناً یقیناً جنت میں (داخل ہونے والے) ہیں۔“ اس حدیث کو امام دیلیٰ نے روایت کیا ہے۔

۲۱/۲۱ . عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رََفِعَةَ أَرْبَعَةَ أَنَا لَهُمْ شَفِيعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُكْرُمُ دُرِّيَّتِي، وَالْقَاضِي لَهُمْ حَوَائِجُهُمْ، وَالسَّاعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ إِنْدَ مَا اضْطَرُرُوا إِلَيْهِ، وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ .  
رواء المتنقي الهندي.

”حضرت علی بن ابی طالب ﷺ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: چار شخص ایسے ہیں قیامت کے روز جن کے لئے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا (اور وہ یہ ہیں: ) میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا، اور ان کی حاجات کو پورا کرنے والا، اور ان کے معاملات کے لئے تگ و دو کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا۔“

اس حدیث کو امام متنقی ہندی نے روایت کیا ہے۔

### ٣. فَصْلٌ فِي مَشْرُوْعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ تَبَعًا

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ حضور ﷺ کی اتباع میں آپ ﷺ کے اہل بیت پر

دروڈ بھیجنے کا بیان ﴿

٢٢/٢٢ عن أبي حمِيد السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُوْلُوا: اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت ابو حمید ساعدی رض بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (یوں) کہو: اے اللہ! تو

٢٢: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأنبياء، باب يزدان النسلام في المشي، ١٢٣٢/٣، الرقم: ٣١٨٩، ومسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، ٣٠٦/١، الرقم: ٤٠٧، ومالك في الموطأ، ١٦٥/١، الرقم: ٣٩٥، والنمسائي في السنن الكبرى، ٣٨٤/١، الرقم: ١٢١٧، وأبو عوانة في المسند، ٥٤٦/١، الرقم: ٤٠٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٥٠/٢، الرقم: ٢٦٨٥ -

درو د بھیج، محمد ﷺ اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ ﷺ کی ذریت طاہرہ پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم ﷺ کی آل پر اور برکت عطا فرماد محمد ﷺ کو اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کو اور آپ ﷺ کی ذریت طاہرہ کو جیسا کہ تو نے برکت عطا کی حضرت ابراہیم ﷺ کو بے شک تو حمید مجید ہے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

۲۳/۲۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُتَّالَ بِالْمُكَيَّالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلَيُقْلُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذَرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو کہ اس کے نامہ اعمال کا پورا پورا بدله دیا جائے جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیج تو اسے چاہئے کہ یوں کہہ: اے اللہ! تو درود بھیج حضرت محمد ﷺ اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر اور آپ ﷺ کی ذریت اور اہل بیت پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم ﷺ پر بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا رب ہے۔“ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔

۲۴/۲۴ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ

۲۳: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، ١/٢٥٨، الرقم: ٩٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/١٥١، الرقم: ٢٦٨٦، وفي شعب الإيمان، ٢/١٨٩، الرقم: ٣٤٨/٥ - والمزي في تهذيب الكمال، ٥/٤٥، ٣٤٨ -

۲۴: أخرجه الدارقطني في السنن، ١/٣٥٥، الرقم: ٦-٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٥٣٠، الرقم: ٣٩٦٩، وابن الجوزي في التحقیق -

اللهُ أَعُوذُ بِهِمْ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أَصْلِي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ، مَارَأَيْتَ أَنَّ صَلَاتِي تَتَّمِّمُ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنَى وَالْبَيْهَقِيُّ.

”حضرت ابو مسعود الانصاری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو مسعود الانصاری رضي الله عنه فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں حضور نبی اکرم ﷺ پر درود پاک نہ پڑھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز کامل ہوگی۔“ اسے امام دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

٢٥/٢٥ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدْيَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَهَدِهَا إِلَيَّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُولُوا: اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

..... في أحاديث الخلاف، ١/٤٠، الرقم: ٤٤، والشوكانى فى نيل الأوطار، ٢/٣٢٢ -

٢٥: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/٦٠، الرقم: ٤٧١٠، وأشار الحاكم إلى أن البخاري خرج به بلفظه، ولكن علة ذكره كما ذكره هنا، لإفاده أن آل البيت والآل جمياً هم - ولا بن المفضل جزء في طريق حديث ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، والطبراني في المعجم الأوسط، ٣/٢٩، الرقم: ٢٣٦٨ -

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ۔ وَاللَّهُمَّ، بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،  
كَمَا بَارِكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ۔

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْطَّبَرَانِيُّ۔

”حضرت عبد الرحمن بن أبي ليلٰ<sup>رض</sup> بیان کرتے ہیں کہ کعب بن عجرہ<sup>رض</sup> مجھے  
ملے اور کہا کیا میں تمہیں وہ (حدیث) ہدیہ نہ کروں جو میں نے حضور نبی اکرم<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> سے  
سنبھالی ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ مجھے ہدیہ کرو تو  
انہوں نے کہا: ہم نے حضور نبی اکرم<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> سے سوال کیا۔ سو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ!  
آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو حضور نبی اکرم<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> نے فرمایا: (یوں) کہو:  
اے اللہ تو (بصورت رحمت) درود بھیج۔ محمد<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> اور آپ<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> کی آل پر جیسا کہ تو نے  
درود بھیجا حضرت ابراہیم<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> اور آپ<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> کی آل پر بے شک تو حمید مجید ہے اور اے  
اللہ! تو برکت عطا فرمادی محمد<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> اور آپ<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> کی آل کو جیسا کہ تو نے برکت عطا فرمائی  
ابراہیم<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> اور آپ<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> کی آل کو بے شک تو حمید مجید ہے۔“  
اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۲۶/۲۶ . عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا أُرْبِدُ عَلَيَّاً فَفِيلَ  
لِي هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْمَتُ إِلَيْهِمْ فَأَجَدَهُمْ فِي حَظِيرَةٍ مِّنْ  
قَصْبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنُ وَحُسَيْنٌ <sup>رض</sup> قَدْ جَمَعَهُمْ  
تَحْتَ ثُوبٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، إِنَّكَ جَعَلْتَ صَلَوَاتِكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ

وَعَلَيْهِمْ رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت واٹلہ بن اسقعؓ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ کی تلاش میں باہر نکلا تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس ہیں پس میں نے (وہاں) ان (کے پاس جانے) کا ارادہ کیا (اور جب میں وہاں پہنچا) تو میں نے انہیں حضور نبی اکرم ﷺ کی چادر کے اندر پایا اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن اور حسینؑ ان سب کو حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک کپڑے کے نیچے جمع کر رکھا تھا پس آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! بے شک تو نے اپنے درود اور اپنی رضوان کو مجھ پر اور ان پر خاص کر دیا ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤. فَصُلْ فِي بِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ

وَجَزَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ

﴿ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا اپنے اہل بیت کو جنت کی بشارت دینے اور ان سے نیکی کرنے والوں کو جزا دینے کا بیان ﴾

٢٧/٢٧ . عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ أَوَّلَ أُرْبَعَةً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، أَنَا وَأَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَذَرَارِيْنَا خَلْفَ ظَهُورِنَا، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِيْنَا، وَشَيْعَتُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ .

”حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: بے شک پہلے چار اشخاص جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میں، تم، حسن اور حسین ہوں گے اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی (یعنی ہمارے بعد وہ داخل ہوگی) اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی (یعنی ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گی) اور ہمارے چاہنے والے (ہمارے مدگار) ہماری دائیں جانب اور باکیں جانب ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٢٨/٢٨ . عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

٢٧: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٣١٩/١، الرقم: ٩٥٠، ٤١/٣،  
الرقم: ٢٦٢٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٣١/٩ -

٢٨: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ١٢٠/٢، الرقم: ١٤٤٦ ، -

**يَقُولُ:** قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَدًا فَلَمْ يُكَافِئْهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا فَعَلَى مُكَافَاتَهُ غَدًا إِذَا لَقِيَنِي. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ابی بن عثمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ کوئی بھلاکی کی اور وہ اس کا بدلہ اس دنیا میں نہ چکا سکا تو اس کا بدلہ پکانا کل (قیامت کے روز) میرے ذمہ ہے جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٢٩/٢٩. عَنْ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلَيُّ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَلِذُرْرَيْتَكَ وَلَوْلَدِكَ وَلَأَهْلِكَ، وَلِشِيعَتَكَ وَلِمُحِيَّ شِيعَتَكَ . فَأَبْشِرُ . رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ .

”حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیری اولاد کو اور تیرے گھر والوں کو اور تیرے مدگاروں کو اور تیرے مدگاروں کے چاہئے والے کو بخش دیا ہے پس تجھے یہ خوشخبری مبارک ہو۔“ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

..... والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٤٣٩/١، الرقم: ٣١٥

والهيشي في مجمع الزوائد، ١٧٣/٩

- ٢٩: أخرجه الديلمي في مسنن الفردوس، ٣٢٩/٥، الرقم: ٨٣٣٧

## ۵. فَصُلُّ فِي أَنْهُمْ أَمَانٌ وَنَجَاةٌ لِمَتِهِ ﷺ

﴿اَهْلِ بَيْتِ اطْهَارِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَآپِ ﷺ کی امت کے لئے

باعتِ امان اور نجات ہونے کا بیان ﴿﴾

۳۰. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

الله ﷺ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ أَخْدُتُمْ بِهِ لَنْ تَضُلُّوْ: كِتَابَ اللَّهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي. رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَحَسَنُهُ وَالطَّبرَانِيُّ.

”حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نبی اکرم ﷺ فرمادی کہ: اے لوگو! میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ (ان میں سے ایک) اللہ تعالیٰ کی کتاب اور (دوسرا چیز) میرے گھروالے ہیں۔“

اسے امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

۳۱. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

۳۰: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب

في مناقب أهل بيته ﷺ، ٥/٦٦٢، الرقم: ٣٧٨٦، والطبراني

في المعجم الأوسط، ٥/٨٩، الرقم: ٤٧٥٧، وفي المعجم الكبير،

٣/٦٦٠، الرقم: ٢٦٨٠، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٤/١١٤ -

٣١: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيته

ﷺ، ٥/٦٦٢، الرقم: ٣٧٨٦، والطبراني في المعجم الأوسط،

٣/٨٩، الرقم: ٤٧٥٧، وفي المعجم الكبير، ٣/٦٦٠، الرقم: ٢٦٨٠ -

حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقِبِهِ الْقُصُوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيمُّكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ وَعِترَتِي أَهْلَ بَيْتِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّبرَانِيُّ.

”حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دوران حج عرفہ کے دن دیکھا کہ آپ ﷺ اونٹی قصوائے پرسوار خطاب فرم رہے ہیں۔ پس میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنًا: اے لوگو! میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تحام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ چیز کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت ہیں۔“ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٢. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: النجومُ أمانٌ لِأهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرْقِ وَأهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَمْتَيِ مِنَ الْخِتَالِ، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ.  
رواہ الحاکم، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں اور جب کوئی قبلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے۔“

..... والحكيم الترمذی في نوادر الأصول، ١/٢٥٨، والقوزوني في  
التدوين في أخبار قرويين، ٢/٢٦٦ -

٤٧١٥: أخرجه الحاکم في المستدرک، ٣/١٦٢، الرقم:

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الانساند ہے۔

۳۳/۳۳ . عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَدَنِي رَبِّي فِي أَهْلِ بَيْتِي مَنْ أَقْرَرَ مِنْهُمْ بِالْتَّوْحِيدِ وُلِّيَ بِالْبَلَاغِ، أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ .  
رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

”حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے رب نے مجھ سے میرے اہل بیت کے بارے وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میری توحید کا اقرار کرے گا اسے یہ بات پہنچا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔“  
اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

۳۴/۳۴ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةٍ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَّا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ .  
وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ

۳۳: أخرجه الحاکم في المستدرک، ۱۶۳/۳، الرقم: ۴۷۱۸ ، والدیلمی في مسنـد الفردوس، ۳۸۲/۴، الرـقم: ۷۱۱۲ -

۳۴-۳۵: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۳۴/۱۲، الرـقم: ۲۳۸۸ ، ۲۶۳۸ ، ۲۶۳۶ ، ۲۶۳۸ ، وفى المعجم الأوسط، ۴/۱۰ ، الرـقم: ۵۸۷۰ ، ۳۴۷۸ ، ۳۵۵/۵ ، الرـقم: ۵۵۳۶ ، وأيضاً، ۸۵/۶ ، الرـقم: ۵۸۷۰ ، وفى المعجم الصغير، ۱/۰۴ ، الرـقم: ۳۹۱ ، ۸۴/۲ ، الرـقم: ۸۲۵ ، والحاکم في المستدرک، ۱۶۲/۳ ، الرـقم: ۴۷۲۰ ، والبزار في المسنـد، ۳۴۳/۹ ، الرـقم: ۳۹۰۰ ، والدیلمی في مسنـد الفردوس، ۱/۲۳۸ ، الرـقم: ۹۱۶ ، والهیثمی في مجمع الزوائد، ۹/۱۶۸ -

الإِحْجَابَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

**رَكِبَهَا سَلَمٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا غَرِيقٌ۔ رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ وَالبُزَّارُ وَالحاكِمُ.**

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح ﷺ کی کشتمی کی سی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔

اور ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن زیبر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا: جو اس میں سوار ہوا وہ سلامتی پا گیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔“

اسے امام طبرانی، بزار اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

**۳۶/۳۶. عَنِ أَبِي ذَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةٍ نُوحٍ: مَنْ رَكَبَ فِيهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِيقٌ، وَمَنْ قَاتَلَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَكَانَمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَالِ۔ رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ وَالْقَضَاعِيُّ.**

”حضرت ابوذر غفاری رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح ﷺ کی کشتمی کی سی ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس سے پچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا اور آخری زمانہ میں جو ہمیں (اہل بیت کو) قتل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ مل کر قفال کرنے والا ہے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

**۳۷/۳۷. عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ**

۳۶: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۴۵/۳، الرقم: ۲۶۳۷  
والقضاعي في مسنـد الشهـاب، ۲۷۳/۲، الرـقم: ۱۳۴۳، والـهيـشيـمي  
في مـجمـعـ الزـوـائـدـ، ۹/۱۶۸۔

۳۷: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ۱/۷۲، الرـقم: ۲۰۳، وفي —

حُرُمَاتٍ شَلَاثًا مِنْ حَفِظِهِنَ حَفِظَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَدُنْيَا، وَمَنْ ضَيَعَهُنَ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ لَهُ شَيْئًا فَقِيلَ: وَمَا هُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حُرُمَةُ الْإِسْلَامِ، وَحُرُمَةُ رَحْمَةِ اللَّهِ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ابو سعيد خدری رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی تین حرمتات ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے اور جو ان تین کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا سو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سی تین حرمتات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے نسب کی حرمت۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۳۸/۳۸ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ. وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ. رَوَاهُ الدَّيْلِمِيُّ.

”حضرت علی رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ستارے اہل آسمان کے لئے امان ہیں پس جب ستارے چلے گئے تو اہل آسمان بھی چلے گئے اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لئے امان ہیں پس جب میرے اہل بیت چلے گئے تو اہل زمین بھی چلے گئے۔“ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

..... المعجم الكبير، ١٢٦/٣، الرقم: ٢٨٨١، ٨٨١/١، والذهبى في ميزان الإعتدال، ٤/٢٩٤ -

٣٨: أخرجه الذهبى في مسنـد الفردوس، ٤/٣١١، الرقم: ٦٩١٣ -

## ٦. فَصُلُّ فِي تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بُغْضِهِمْ وَعَدَاؤِهِمْ

﴿حضور ﷺ کا اپنے اہل بیت سے بعض وعداوت رکھنے

سے ڈرانے کا بیان ﴿

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتَّةُ لَعْنَتُهُمْ، ٣٩/٣٩  
لَعْنَهُمُ اللَّهُ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ كَانَ: الْزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمُكَذِّبُ  
بِقَدْرِ اللَّهِ وَالْمُسْلِطُ بِالْجَبَرِ وَرُوتُ لِيُعَزِّزَ بِذِالِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، وَيُذَلِّلُ مَنْ  
أَعْزَّ اللَّهُ، وَالْمُسْتَحْلِلُ لِحُرُمَ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحْلِلُ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَمَ اللَّهُ،  
وَالثَّارِكُ لِسُنْتِي. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: چھ  
بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ مجھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہر نبی مستجاب الدعوات  
ہے وہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے: جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی

٣٩: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب القدر، باب منه، (١٧)، ٤/٤٥٧،  
الرقم: ٢١٥٤، وابن حبان في الصحيح، ١٣/٦٠، الرقم: ٥٧٤٩  
والحاكم في المستدرك، ٢/٥٧٢، الرقم: ٣٩٤١، والطبراني في  
المعجم الكبير، ١٧/٤٣، الرقم: ٨٩، والبيهقي في شعب الإيمان،  
٣/٤٣، الرقم: ٤٠١٠ -

قدر کو جھلانے والا ہو اور ظلم و جبر کے ساتھ سلط حاصل کرنے والا ہوتا کہ اس کے ذریعے اے عزت دے سکے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے اور اسے ذلیل کر سکے جسے اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری سنت کا تارک۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٤٠/٤ . عن أبي سعيدٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُصَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُعْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا دَخَلَهُ اللَّهُ النَّارُ.  
روأه ابن حبان والحاكم.

”حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال کر دیتا ہے۔“

اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٤١/٤١ . عن عبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُصَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي

٤٠: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ١٥/٤٣٥، الرقم: ٦٩٧٨، والحاكم في المستدرك، ٣/١٦٢، الرقم: ٤٧١٧، والذهباني في سير أعلام النبلاء، ٢/١٢٣، والهشمي في موارد الظمان، ١/٥٥٥، الرقم: ١٢٣/٢ - ٢٢٤٦-

٤١: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/١٦١، الرقم: ٤٧١٢، والطبراني في المعجم الكبير، ١١/١٧٦، الرقم: ١١٤١٢، والهشمي في مجمع الزوائد، ٩/١٧١ -

عَبْدُ الْمُطَلِّبِ، إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ لَكُمْ ثَلَاثًا أَنْ يُبَشِّرَ قَائِمَكُمْ وَأَنْ يَهْدِيَ  
ضَالَّكُمْ، وَأَنْ يُعْلَمَ جَاهِلَكُمْ، وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَكُمْ جُوَادَاءً نُجَادَاءَ  
رُحَمَاءً، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ  
اللَّهَ وَهُوَ مُبْعِضٌ لَا هُلْ بَيْتُ مُحَمَّدٍ لِتَبَيَّنَمْ دَخَلَ النَّارَ.

**رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.**

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے بن عبد المطلب! بے شک میں نے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے دس چیزیں مانگی ہیں پہلی یہ کہ وہ تمہارے قیام کرنے والے کو ثابت قدم رکھے اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارے گمراہ کو ہدایت دے اور تیسرا یہ کہ وہ تمہارے جاہل کو علم عطا کرے اور میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا ہے کہ وہ تمہیں سخاوت کرنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا اور دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے پس اگر کوئی رکن اور مقام کے درمیان دونوں پاؤں قطار میں رکھ کر کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور پھر (وصال کی شکل میں) اللہ سے ملے در آن حالیکہ وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہو گا۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے نیز امام حاکم نے فرمایا کہ  
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَبَيَّنَ قَالَ: بُغْضُ ٤٢ / ٤٢

٤٢: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٤٥/١١، الرقم: ١٣١٢

والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٧٢/٩، والمناوي في فيض القدير،

**بَنِي هَاشِمٍ وَالْأَنْصَارِ كُفُّرٌ، وَبُغْضُ الْعَرَبِ نَفَاقٌ.** رواه الطبراني.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بنو ہاشم اور انصار سے بغض رکھنا کفر ہے اور اہل عرب سے بغض رکھنا منافق ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٣ / . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: أَيَّهَا النَّاسُ، مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَأَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. أَيَّهَا النَّاسُ، احْتَجِرْ بِذَلِكَ مِنْ سُفْكِ دَمِهِ وَأَنْ يُؤْرِدِي الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ. مُثْلِ لِي أُمَّيَّتِي فِي الْبَطْنِ فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّأْيَاتِ فَاسْتَعْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ. رواه الطبراني.

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ ہم سے مخاطب ہوئے پس میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سننا: اے لوگو! جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ جمع کرے گا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگرچہ وہ نماز، روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان گمان ہی کیوں نہ کرتا ہو؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (ہاں) اگرچہ وہ روزہ اور نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور خود کو مسلمان تصور کرتا ہو، اے لوگو! یہ لبادہ اوڑھ کر اس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچایا اور یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں

٤٣: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢١٢/٤، الرقم: ٤٠٢

والذهبی في میزان الاعتدال، ١٧١/٣، والهیثمی في مجمع الزوائد،

**الإِحَاجَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ**

درآخالیکہ وہ گھٹیا اور کہینے ہوں پس میری امت مجھے میری ماں کے پیٹ میں دھانی گئی پس میرے پاس سے جھنڈوں والے گزرے تو میں نے حضرت علی اور شیعیان علی کے لئے مغفرت طلب کی۔ ”اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

**٤/٤.** عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِمُعاوِيَةَ بْنِ خُدَيْجٍ: يَا مُعاوِيَةَ بْنَ خُدَيْجٍ، إِيَّاكَ وَبُغْضَنَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُبَغِّضُنَا أَحَدٌ، وَلَا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلَّا ذِيْدَ عَنِ الْحُوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَيَاطِ مِنْ نَارٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن خدیج سے کہا: اے معاویہ بن خدیج! ہمارے (اہل بیت کے) بغض سے بچ کیونکہ بے شک حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: کہ ہم (اہل بیت) سے کوئی بغض نہیں رکھتا اور کوئی حسد نہیں کرتا مگر یہ کہ قیامت کے دن اسے آگ کے چاکبوں سے حوض کوثر سے دھنکار دیا جائے گا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

**٤/٥.** عَنْ عَلَيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ عِتْرَتِي وَالْأَنْصَارِ وَالْعَرَبِ فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاثَتٍ: إِمَّا مُنَافِقٌ، وَإِمَّا لِزُنْيَةٍ، وَإِمَّا أُمْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ طُهْرٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْدَّيْلِيُّ.

٤: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٣٩/٣، الرقم: ٢٤٠٥

والبيهقي في مجمع الزوائد، ١٧٢/٩،

٤: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٢٣٢/٢، الرقم: ١٦١٤

والديلمي في مسنده الفردوس، ٦٢٦/٣، الرقم: ٥٩٥٥، والذهبى في

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ١٤٨/٣۔

”حضرت علیؐ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص میرے اہل بیت اور انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانتا تو اس میں تین چیزوں میں سے ایک پائی جاتی ہے: یا تو وہ منافق ہے یا وہ حرامي ہے یا وہ ایسا آدمی ہے جس کی ماں بغیر طہر کے اس سے حاملہ ہوئی ہو۔“ اس حدیث کو امام تیہقی اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔

٤٦ / عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّهُمَّ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضْنِي وَأَبْغَضَ أَهْلَ بَيْتِي، كَثْرَةَ الْمَالِ وَالْعَيَالِ. كَفَاهُمْ بِذَلِكَ غَيَّاً أَنْ يَكُثُرَ مَا لَهُمْ فِي طُولِ حِسَابِهِمْ، وَأَنْ يَكُثُرَ الْوُجُدَانِيَّاتُ فَيَكُثُرُ شَيَّاطِينُهُمْ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

”حضرت علی بن ابی طالبؑ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اسے کثرت مال اور کثرت اولاد سے نواز یہ ان کی گمراہی کے لئے کافی ہے کہ ان کا مال کثیر ہو جائے پس (اس کثرت مال کی وجہ سے) ان کا حساب طویل ہو جائے اور یہ کہ ان کی وجدانیات (جنبداتی چیزوں) کثیر ہو جائیں تاکہ ان کے شیاطین کثرت سے ہو جائیں۔“ اس کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

٤٧ / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْهُ: بُغْضُ عَلِيٍّ، وَنَصْبُ أَهْلِ بَيْتِي، وَمَنْ قَالَ: إِيمَانُ كَلَامٌ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

٤٦: آخرجه الدیلمی فی مسنـد الفردوس، ٤٩٢/١، الرقم: ٢٠٠٧ -

٤٧: آخرجه الدیلمی فی مسنـد الفردوس، ٨٥٢/٢، الرقم: ٢٤٥٩ -

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں وہ جس میں پائی جائیں گی نہ وہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں (اور وہ تین چیزیں یہ ہیں): علی ﷺ سے بغرض رکھنا، میرے اہل بیت سے دشمنی رکھنا اور یہ کہنا کہ ایمان (فقط) کلام کا نام ہے۔“  
 اس حدیث کو امام دیلیمی نے روایت کیا ہے۔



## ٧. فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَام

﴿أَهْلِ بَيْتِ أَطْهَارِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَجَامِعِ مَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾

٤٨ / ٤٨ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيَّيَا . بِمَا يُدْعَى خُمَّا . بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ . فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ . لَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّيْ فَأَجِيبُ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ تَقْلِيْنِ: أَوْلُهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُدُّوْا بِكِتَابِ اللَّهِ . وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ . فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِيْ . أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ . أَهْلِ بَيْتِيْ أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ، أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

”حضرت زید بن ارقمؑ سے مردی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم ﷺ ہمیں خطبہ دینے کے لئے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خُم کہتے

٤٨ : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَافَةِ، مِنْ فَضَائِلِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، ١٨٧٣/٣، الرَّقم: ٢٤٠٨، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمَسْنَدِ، ٣٦٦/٤، الرَّقم: ١٩٢٦٥، وَابْنُ حَبَّانَ فِي الصَّحِيفَةِ، ١٤٥/١، الرَّقم: ١٢٣، وَاللَّالِكَائِي فِي اعْتِقَادِ أَهْلِ السَّنَةِ، ٧٩/١، الرَّقم: ٨٨، وَالْبَيْهَقِي فِي السَّنَنِ الْكَبِيرِ، ١٤٨/٢، الرَّقم: ٢٦٧٩ وَابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ٤٨٧/٣ -

ہیں۔ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور وعظ و نصیحت کے بعد فرمایا: اے لوگو! میں تو بس ایک آدمی ہوں عمنوریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ (یعنی فرشتہ اجل) میرے پاس آئے گا اور میں اسے لیکر کھوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، پھر آپ نے کتاب اللہ (کی تعلیمات پر عمل کرنے پر) ابھارا اور اس کی ترغیب دی پھر فرمایا: اور (دوسرے) میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔“ اسے امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٤٩/٤٩. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاءً وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ. فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ رضي الله عنهما فَأَذْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَيٍّ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها فَأَذْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ عَلَيٍّ فَأَذْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب، ٣٣:٣٣].

٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي ﷺ، ٤/١٨٨٣، ٤/٢٤٢٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٧٠، الرقم: ٣٢١٠٢، والحاكم في المستدرك، ٣/١٥٩، الرقم: ٤٧٠٧-٤٧٠٩، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٤٩، الرقم: ٢٦٨٠، والطبرى في جامع البيان، ٣/٤٨٦، ٦/٢٢، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٣/٤٩، والمباركفوري في تحفة الأحوذى، ٩/٤۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ صح کے وقت ایک اونی منتقل چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے تو آپ ﷺ نے انہیں اُس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین ﷺ آئے اور وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ ﷺ نے انھیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو آپ ﷺ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: ”اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی ڈور کر دے اور تم کو (گناہوں سے) خوب پاک و صاف کر دے۔“

اسے امام مسلم، ابن ابی شیبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

۵۰/۵۰. عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾، [آل عمران، ۳۲: ۳]، دُعَا

٥٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ١٨٧١/٤، الرقم: ٢٤٠٤، والترمذى فى السنن، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله رضي الله عنه، باب ومن سورة آل عمران، ٢٢٥/٥، الرقم: ٢٩٩٩، وفي كتاب المناقب عن رسول الله رضي الله عنه، باب (٢١)، ٦٣٨/٥، الرقم: ٣٧٢٤، وأحمد بن حنبل فى المسند، ١٨٥/١، الرقم: ١٦٠٨، والنسائى فى السنن الكبرى، ٧/٥، الرقم: ٨٣٩٩، والحاكم فى المستدرك، ١٦٣/٣، الرقم: ٤٧١٩، والبيهقي فى السنن الكبرى، ٦٣/٧، الرقم:

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَامُهُ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْتَّرْمِذِيُّ.

”حضرت سعد بن أبي وقاص رض بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی: ”آپ فرمادیں آؤ ہم بلا کیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے۔“ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین علیہم السلام کو بلایا، پھر فرمایا: یا اللہ! یہ میرے اہل (بیت) ہیں۔“

اسے امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

٥١/٥١ عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَامُهُ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: أَنَا حَرُبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَسَلَمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ.

”حضرت زید بن ارقم رض سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رض سے فرمایا: تم جس سے لڑو گے میں اُس کے ساتھ حالت جگ میں ہوں اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اُس سے صلح کرنے والا ہوں۔“ اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٥١: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضل فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٥/٦٩٩، الرقم: ٣٨٧٠، وابن ماجه فى السنن، المقدمة، باب فضل الحسن والحسين ابْنِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالب رض، ١/٥٢، الرقم: ٤٤٥، والحاكم فى المستدرك، ٣/٦١، الرقم: ٤٧١٤، والطبرانى فى المعجم الأوسط، ٥/١٨٢، الرقم: ٢٦٢٠، الصيدوى ١٥، وفي المعجم الكبير، ٣/٤٠، الرقم: ١٣٣/١، رقم: ٨٥ فى معجم الشيوخ.

٥٢/ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي تَارِكٌ فِيهِمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعَظُّمُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعَرْتَيِ: أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوهُا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا. رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

”حضرت زید بن ارقم ﷺ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں تم میں ایسی دو چیزوں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر میرے بعد تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرا سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لکھی ہوئی رہی ہے اور میری عترت یعنی اہل بیت اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گی پس دیکھو کہ تم

٥٢: أخر جه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب فى مناقب أهل بيته النبى ﷺ، ٦٦٣/٥، الرقم: ٣٧٨٦/٣٧٨٨، والنسائى فى السنن الكبرى، ٤٥/٥، الرقم: ٨٤٦٤، وأحمد بن حنبل فى المسند، ١٤/٣، ٥٩، ٢٦، ١٤، الرقم: ١١١١٩، ٤٥٧٦، ١١٢٢٧، ١١٥٧٨، والحاكم فى المستدرك، ٣/١١٨، الرقم: ٤٥٧٦، والطبرانى عن أبي سعيد ﷺ فى المعجم الأوسط، ٣/٣٧٤، الرقم: ٣٤٣٩، وفي المعجم الصغير، ١/٢٢٦، الرقم: ٣٢٣، وفي المعجم الكبير، ٣/٦٥، الرقم: ٢٦٧٨، وابن أبي شيبة فى المصنف، ٦/١٣٣، وأبو يعلى فى المسند، ٢/٣٠٣، الرقم: ١٠٢٦٧، ٣٠٠٨١، وابن أبي عاصم فى السنة، ٢/٦٤٤، الرقم: ١٥٥٣، والديلمى فى مسند الفردوس، ١/٦٦، الرقم: ١٩٤، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١١٤٠ - ١٦٣/٩

میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو؟“

اسے امام ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

۵۳/۵۳ عنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب، ۳۳:۳۳]، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ، وَحَسَنَةَ، وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلَيْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ. ثُمَّ قَالَ: أَللَّهُمَّ، هُؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ.

رواہ الترمذی، وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”حضور نبی اکرم ﷺ کے پروردہ حضرت عمر بن ابی سلمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب اُم المؤمنین اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور نبی اکرم ﷺ پر یہ آیت ”اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح) کی آلوگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے“ نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے سیدہ فاطمہ اور حسین کریمین سلام اللہ علیہم کو بلا یا

۵۳: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ،  
باب ومن سورة الأحزاب، ۳۵۱/۵، الرقم: ۳۲۰۵، وفي كتاب  
المناقب عن رسول الله ﷺ، باب فضل فاطمة بنت محمد ﷺ،  
الرقم: ۶۹۹/۵، ۳۸۷۱، والطبراني في المعجم الأوسط، ۱۳۴/۴،  
الرقم: ۳۷۹۹۔

اور انہیں اپنی کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علیؓ آپ ﷺ کے پیچھے تھے، آپ ﷺ نے انہیں بھی اپنی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی آلوگی دور فرمائیں خوب پاک و صاف کر دے۔ سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں (بھی) ان کے ساتھ ہوں، فرمایا: تم اپنی جگہ رہو اور تم تو بہتر مقام پر فائز ہو۔“ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

٤/٥. عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ حَدَّثَنَا عَلَيْيِ بْنُ مُوسَى الرِّضا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقُلُبِ وَقُوْلُ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ. قَالَ أَبُو الصَّلْتِ: لَوْ قُرِئَ هَذَا الِإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرًا.

رواہ ابن ماجہ والطبرانی والبیهقی.

”حضرت علی بن ابی طالبؑ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایمان نام ہے دل سے پہچانے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا۔ (راوی) ابوصلت ہروی فرماتے ہیں: اگر اس حدیث کی سند کسی پاگل پر پڑھ کر دم کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔“ اسے امام ابن ماجہ، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

٥: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب في الإيمان، ١/٢٥،  
الرقم: ٦٥، والطبراني في العمجم الأوسط، ٦/٢٢٦، الرقم: ٦٢٥٤  
وفي المعجم الأوسط، ٨/٢٦٢، الرقم: ٨٥٨٠، والبيهقي في شعب  
الإيمان، ١/٤٧، الرقم: ١٦، والمرزوقي في تعظيم قدر الصلاة،  
٢/٧٤٢، والسيوطى في شرح سنن ابن ماجه، ١/٨، الرقم: ٦٥  
وابن القيم فى حاشية على سنن أبي داود، ٢/٢٩٤۔

٥٥. عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، فَحَرَمَ اللَّهُ ذُرِيَّتَهَا عَلَى النَّارِ.  
روأهُ الْحَاكِمُ وَالْبَزَارُ وَأَبُو نُعَيْمٍ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ  
إِلَيْهِ الْإِسْنَادُ.

”حضرت عبد الله بن مسعود رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو آگ پر حرام کر دیا۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

٥٦. عن المُسْوَرِ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ رض  
يُخْطُبُ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَهُ فَيْلَقَانِي فِي الْعُتَمَةِ، قَالَ: فَلَقِيهِ فَحَمَدَ اللَّهَ  
الْمُسْوَرَ وَأَشَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ وَأَيْمَنُ اللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ  
وَلَا صِهْرٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَسَبِكُمْ وَسَبِيلِكُمْ وَصَهْرِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةُ مِنِي يَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا وَيَسْطُونِي مَا يَسْطُونُهَا،  
وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرُ نَسَبِيٍّ وَسَبِيلِيٍّ وَصَهْرِيٍّ وَعِنْدَكَ  
إِبْنَتُهَا وَلَوْ زَوَّجْتُكَ لَقَبَضَهَا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لَهُ.  
روأهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِلَيْهِ الْإِسْنَادُ.

٥٥: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٦٥/٣، الرقم: ٤٧٢٦، والبزار في المسند، ٢٢٣/٥، الرقم: ١٨٢٩، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٤/١٨٨، والمناوي في فيض القدير، ٤/٤٦٢/٢ -

٥٦: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٧٢/٣، الرقم: ٤٧٤٧ -

”حضرت عبد اللہ بن ابی رافع سے حضرت مسیح ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن حسن ؓ نے انہیں بلا بھیجا اپنی بیٹی کی معنگتی کرنے کے لئے آپ نے ان سے کہا کہ آپ رات کے وقت مجھے ملیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پس وہ ان سے ملے پھر حضرت مسیح ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر کہا: خدا کی قسم کوئی ایسا نسب اور نہ ہی سبب اور نہ ہی سرایی رشتہ ایسا ہے جو مجھے آپ کے نسب، سبب اور سرال سے بڑھ کر پیارا ہے مگر یہ کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: فاطمہ میرے جگر کا ملکرا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے اور بے شک انساب قیامت کے روز مقطوع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، سبب اور سرال کے اور تمہارے پاس حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے (یعنی تہاری بیٹی گویا ان کی بیٹی ہے) اور اگر میں اس سے شادی کرتا ہوں تو یہ چیز انہیں ناخوش کرے گی اور پھر وہ معدتر کرتے ہوئے چل پڑے۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

٥٧/ عن عبد الله بن حنطب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: ألسْتُ أُولى بِأَنفُسِكُمْ؟ قالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَأَلُوكُمْ عَنِ الْثَّيْنِ: عَنِ الْقُرْآنِ وَعَنِ عِتْرَتِي. أَلَا وَلَا تَقْدَمُوا قُرِيشًا فَتَضْلُلُوا وَلَا تَخْلُفُوا عَنْهَا فَتَهْلِكُوا وَلَا تُعِلِّمُوهَا فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ قُوَّةً رَجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ. لَوْلَا أَنْ تَبْطُرَ قُرِيشٌ لَأَخْبَرْتُهَا بِمَا لَهَا عِنْدَ اللهِ خِيَارٌ قُرِيشٌ خِيَارُ النَّاسِ. رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ.

٥٧: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ٩/٦٤، وابن الأثير في أسد الغابة، ٣/١٤٧، والهيثمي في مجمع الروايد، ٥/١٩٥ -

”حضرت عبد الله بن حنطب رض بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھفہ کے مقام پر ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہیں عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس میں تم سے دو چیزوں کے بارے سوال کرنے والا ہوں۔ قرآن کے بارے اور اپنی عترت اہل بیت کے بارے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ قریش پر پیش قدی نہ کرو کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور نہ انہیں سکھاؤ کہ وہ تم سے زیادہ جانے والے ہیں اور اگر قریش فخر نہ کرتے تو میں ضرور ان کو اللہ کے ہاں ان کے مقام کے بارے بتاتا قریش میں بہترین لوگ تمام لوگوں سے بہترین ہیں۔“ اسے امام البیعیم نے روایت کیا ہے۔

٥٨/٥٨ . عَنْ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ بَسَطَ شَمْلَةً، فَجَلَسَ عَلَيْهَا هُوَ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيُّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَجَامِعِهِ فَعَقَدَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْضُ عَنْهُمْ كَمَا أَنَا عَنْهُمْ رَاضٍ . رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ .

”حضرت علی رض بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ درآں حالیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی ہوئی تھی۔ پس اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (بغضِ نفس) حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام بیٹھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے کنارے کپڑے اور ان پر ڈال کر اس میں گردہ لگا دی۔ پھر فرمایا: اے اللہ! تو بھی ان سے راضی ہو جا، جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔“ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٩/٥. عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ

اللهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْلِفُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي. رَوَاهُ الطَّبَرَانِي.

”حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان كرتے ہیں کہ آخری چیز جو حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمائی وہ یقینی کہ مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرو۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٦٠/٦. عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَنْ

أَشْفَعَ لَهُ مِنْ أُمَّتِي أَهْلُ بَيْتِي ثُمَّ الْأَقْرَبُ مِنَ الْقُرَيْشِ، ثُمَّ الْأَنْصَارُ، ثُمَّ مَنْ

آمَنَ بِي، وَاتَّبَعَنِي مِنَ الْيَمَنِ، ثُمَّ سَائِرُ الْعَرَبِ ثُمَّ الْأَعَاجِمُ وَأَوَّلُ مَنْ

أَشْفَعَ لَهُ أُولُو الْفَضْلِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِي.

”حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اپنی امت میں سب سے پہلے جس کے لئے میں شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں، پھر جو قریش میں سے میرے قربی رشتہ دار ہیں، پھر انصار کی پھران کی جو یمن میں سے مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی، پھر تمام عرب کی، پھر عجم کی اور سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ اہل فضل ہوں گے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٩: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ١٥٧/٤، الرقم: ٣٨٦٠

والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٦٣/٩

٦٠: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٤٢١/١٢، والهيثمي في مسنـد

الفردوـس، ٢٣/١، الرقم: ٢٩، والهيثمي في مجمع الزوائد،

٣٨٠/١٠

٦١/٦١ . عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَعْقِدُ قَدَمًا عَبْدٌ حَتَّى يُسَأَّلَ عَنْ أَرْبَعَةِ: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عَلَامَةُ حُبِّكُمْ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِ عَلَيِّ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ابو برهن بن هشام<sup>رض</sup> بیان کرتے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آدمی کے دونوں قدم (روز قیامت) اس وقت تک استقامت نہیں پاتے جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے سوال نہ کر لیا جائے اس کے جسم کے بارے میں کہ کس چیز میں اس نے اس کو امتحان میں ڈالا اور اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں اس نے اس کو فنا کیا اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے اس نے اسے کمایا؟ اور کس چیز میں اس نے اس کو خرچ کیا؟ اور اہل بیت کی محبت کے بارے۔ پس عرض کیا گیا: یا رسول اللَّهِ ﷺ! آپ کی محبت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ ﷺ نے اپنا دست اقدس حضرت علی رض کے کندھے پر مارا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

الْبَابُ الثَّانِي:

مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا

﴿سَيِّدَةُ الْكَافِنَاتِ فَاطِمَةُ زَهْرَاءُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ کے مناقب



## ۱. فَصْلٌ فِي كَوْنِ آلِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ

### الْبَيْتِ وَأَهْلِ كِسَاءٍ

﴿سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھرانے کا اہل بیت اور اہل کسائے ہونے کا بیان﴾

﴿ہونے کا بیان﴾

١/٦٢ . عَنْ صَفِيَّةَ بْنِتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاءً وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحْلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنها فَادْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ ﷺ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاطِمَةُ رضي الله عنها فَادْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ ﷺ فَادْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾ .

رواہ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدٌ.

”حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی الله عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله

١: آخرجه مسلم فی الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بیت النبی ﷺ، ١٨٨٣/٤، الرقم: ٢٤٢٤، وابن أبي شیبہ فی المصنف، ٣٧٠/٦، الرقم: ٣٦١٠٢، وأحمد بن حنبل فی فضائل الصحابة، ٦٧٢/٢، الرقم: ١١٤٩، وابن راهویہ فی المسند، ٦٧٨/٣، الرقم: ١٢٧١، والحاکم فی المستدرک، ١٦٩/٣، الرقم: ٤٧٠٧، والبیهقی فی السنن الکبری، ١٤٩/٢، والطبری فی جامع البیان، ٦/٢٢٦.

عها بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ صح کے وقت باہر تشریف لائے درآں خالیکہ آپ ﷺ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے تو آپ ﷺ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین رض آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ ﷺ نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو آپ ﷺ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: ”اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آسودگی دُور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔“

اس حدیث کو امام مسلم، ابن ابی شیبہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٢/٦٣ . عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبُيُوتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلَيْهِ حَلْفٌ ظَهُرٌ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، هُوَلَاءِ أَهْلُ بَيْتِيِّ، فَادْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا.

روأه الترمذی وأحمد.

:٢ آخرجه الترمذی فی السنن، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، ٣٥١/٥، ٦٦٣، الرقم: ٣٢٠، وأحمد بن حنبل فی المسند، ٢٩٢/٦، وفي فضائل الصحابة، ٥٨٧/٢، الرقم: ٩٩٤، والحاکم فی المستدرک، ٤٥١/٢، الرقم: ٣٥٥٨، ١٥٨/٣، الرقم: ٤٧٠٥، والطبرانی فی المعجم الكبير، ٥٢/٣، الرقم: ٢٦٦٢۔

”پروردہ نبی حضرت عمر بن ابی سلمہ ﷺ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ پر حضرت اُم سلم وضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ آیت مبارکہ ..... اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلو دُوڑ کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے ..... نازل ہوئی۔ تو آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین ﷺ کو بلا یا اور ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علیؑ حضور نبی اکرم ﷺ کے پیچے تھے، آپ ﷺ نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا: الٰہی! یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور کر اور ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔

۳/۶۴. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ: الصَّلَاةُ، يَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ چھ (۲) ماہ تک حضور نبی اکرم ﷺ کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لئے نکلتے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے

٣: آخر جه الترمذی فی السنن، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، ۵/۳۵۲، الرقم: ۳۲۰۶، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۳/۲۵۹، ۲۸۵، وفي فضائل الصحابة، ۲/۷۶۱، الرقم: ۱۳۴۱، ۱۳۴، وابن أبي شيبة فی المصنف، ۶/۳۸۸، الرقم: ۳۶۰، ۳۲۲۷۲، وابن أبي عاصم فی الأحاديث والمشاهن، ۵/۳۶۰، الرقم: ۲۹۵۳، والحاکم فی المستدرک، ۳/۱۷۲، الرقم: ۴۷۴۸۔

دروازہ کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: اے اہل بیت! نماز قائم کرو (اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے: )..... اے اہل بیت! اللہ چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی دُور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور ابن الجیش بن شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٦٥/٤. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رض فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ قَالَ: نَزَّلْتُ فِي خَمْسَةٍ: فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ رض.  
رواہ الطبرانی وابن حبان.

”حضرت ابوسعید خدری رض نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارکہ ..... اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی دُور کر دے ..... کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ پانچ ہستیوں ..... حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رض ..... کے بارے میں نازل ہوئی۔“  
اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

٤: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٣٨٠ / ٣، الرقم: ٣٤٥٦،  
المعجم الصغير، ٢٣١ / ١، الرقم: ٣٧٥، وابن حبان في طبقات  
المحدثين بأصبهان، ٣٨٤ / ٣، والخطيب في تاريخ بغداد،  
٢٧٨ / ١٠، والطبراني في جامع البيان، ٦ / ٢٢.

## ٢. فَصْلٌ فِي كَوْنِهَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا بَضْعَةٌ مِّنْ رَسُولٍ

اللَّهُ أَكْبَرُ  
اللَّهُ أَكْبَرُ  
اللَّهُ أَكْبَرُ

﴿سَيِّدَهُ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا كَانَتْ جَرِيْ مَصْطَفِيَ طَلَبُهُمْ هُونَةً كَبَيْان﴾

٦٦. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرُومَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَلَبَهُمْ قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةُ  
مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي. مُتَقْفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت مسور بن مخرمة رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
فاتحہ میرے جسم کا گلکڑا ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔“  
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٦٧. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرُومَةَ فِي رِوَايَةِ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ

٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ١٣٦١/٣، الرقم: ٣٥١٠، وفي كتاب المناقب، باب مناقب فاطمة، ١٣٧٤/٣، الرقم: ٣٥٥٦، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ١٩٠٣/٤، الرقم: ٢٤٤٩، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٨٨/٦، الرقم: ٣٢٢٦٩، وأبو عوانة في المسند، ٧٠/٣، الرقم: ٤٢٣٣، وابن أبي عاصم في الأحاديث والوثانى، ٣٦١/٥، الرقم: ٢٩٥٤، والطبراني في المعجم الكبير، ٤٠٤/٢٠٢، الرقم: ١٠١٢ -

٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب المناقب، باب ذكر أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ١٣٦٤/٣، الرقم: ٣٥٢٣، ومسلم في الصحيح، كتاب -

..... قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةً مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْوُءَهَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بْنُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبْنُتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت مسورة بن مخزون رواية كرتت هيئات حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک فاطمہ میرے جگہ کا گلکڑا ہے اور مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص اسے تکلیف پہنچائے خدا کی قسم کسی شخص کے پاس رسول اللہ اور دشمن خدا کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتیں۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٦٨. عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ

فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبی ﷺ، ٤/١٩٠٣،  
الرقم: ٢٤٤٨، وابن ماجه فی السنن، كتاب النکاح، باب الغيرة،  
١/٦٤٤، الرقم: ١٩٩٩، وأحمد بن حنبل فی فضائل الصحابة،  
٢/٧٥٩، الرقم: ١٣٣٥، وابن حبان فی الصحيح، ١٥/٤٠٧، ٤٠٨،  
٥٣٥، الرقم: ٦٩٥٦، ٦٩٥٧، ٦٩٥٨، والطبرانی فی المعجم الكبير،  
٢٠/١٨، ١٩، ١٨، الرقم: ٤٠٥/٢٢، وأیضاً، ١٩، الرقم: ١٠١٣۔

٧: آخرجه البخاری فی الصحيح، كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول اللہ ﷺ، ٣/١٣٦١، الرقم: ٣٥١٠، وفي كتاب المناقب،  
باب مناقب فاطمة، ٣/١٣٧٤، الرقم: ٣٥٥٦، وابن أبي شيبة،  
المصنف، ٦/٣٨٨، الرقم: ٣٢٢٦٩، وأبو عوانة فی المسند،  
٣/٧٠، الرقم: ٤٢٣٣، وابن أبي عاصم فی الأحاديث المثانی،  
٥/٣٦١، الرقم: ٢٩٥٤، والطبرانی فی المعجم الكبير، ٤٠٤/٢٠٢،  
الرقم: ١٠١٢۔

مِنِّي، فَمَنْ أَعْضَبَهَا أَغْسَبَنِي. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت مسور بن خرمہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا گلکڑا ہیں، پس جس نے اسے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔“  
اس حدیث کو امام بخاری اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٨/٦٩. عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامَ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوهُ ابْنَتَهُمْ، عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا آذُنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا آذُنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا آذُنُ لَهُمْ. وَقَالَ ﷺ: فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي. يَرِينِي مَا رَأَبَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا.

رواهُ مُسْلِمٍ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنِ ماجِه.

”حضرت مسور بن خرمہ ﷺ نے روایت کیا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ نے فاطمہ بنت النبی ﷺ کو منبر پر فرماتے سن: بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا علی سے رشتہ کرنے کی مجھ سے

٨: آخرجه مسلم فی الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل  
فاطمة بنت النبی ﷺ، ٢٤٤٩، الرقم: ١٩٠٢/٤، والترمذی فی  
السنن، کتاب المناقب، باب ما جاء فی فضل فاطمة بنت  
محمد ﷺ، ٦٩٨/٥، الرقم: ٣٨٦٧، وأبُو داود فی السنن، کتاب  
النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، ٢٢٦/٢، الرقم:  
٢٠٧١، وابن ماجہ فی السنن، کتاب النکاح، باب الغیرة، ٦٤٣/١  
الرقم: ١٩٩٨، والمسائی فی السنن الكبرى، ١٤٧/٥، الرقم:  
٨٥١٨، وأحمد بن حنبل فی المسند، ٣٢٨/٤، وفي فضائل  
الصحابۃ، ٧٥٦/٢، الرقم: ١٣٢٨۔

## الإِحَاجَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اجازت مانگی ہے۔ میں انہیں اجازت نہیں دیتا پھر میں انہیں اجازت نہیں دیتا، سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا اور حضور نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا: میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، اُس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

**٦٧٠. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا فَاطِمَةَ بَصْعَدَةَ مِنِّي، يُؤْذِنِي مَا آذَاهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.**

”حضرت مسروں بن مخرمہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: فاطمہ تو بس میرے جسم کا گلکرا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

**٦٧١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبِّيرِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا فَاطِمَةَ بَصْعَدَةَ مِنِّي، يُؤْذِنِي مَا آذَاهَا، وَيُنْصِبِنِي مَا أَنْصَبَهَا.**

٩: آخرجه مسلم فی الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل  
فاطمة بنت النبي ﷺ، ١٩٠٣/٤، الرقم: ٢٤٤٩، والننسائی فی  
السنن الکبری، ٩٧/٥، الرقم: ٨٣٧٠، وابن أبي عاصم فی الأحاداد  
والثانی، ٣٦١/٥، الرقم: ٢٩٥٥، والطبرانی فی المعجم الکبیر،  
٤٠٤/٢٢، الرقم: ١٠١٠، والبیهقی فی السنن الکبری، ٢٠١/١٠،  
وأبو نعیم فی حلیة الأولیاء، ٤٠/٢، والأندلسی فی تحفۃ المحتاج،  
٥٨٥/٢، الرقم: ١٧٩٥۔

١٠: آخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب ما جاء فی فضل  
فاطمة بنت محمد ﷺ، ٦٩٨/٥، الرقم: ٣٨٦٩، وأحمد بن حنبل  
فی المسند، ٤/٥، وفي فضائل الصحابة، ٧٥٦/٢، الرقم: ١٣٢٧۔

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت عبد الله بن زبير رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

۱۱/۷۲ . عَنْ عَلَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: إِنَّ  
اللَّهَ يَعْصِبُ لِغَضِيبِكِ، وَيَرْضِي لِرَضَاكِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت علی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا: پیش اللہ تعالیٰ تیری نار نسکی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔“  
اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۱۲/۷۳ . عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

..... والحاکم فی المستدرک، ۱۷۳/۳، الرقم: ۴۷۵۱ ، والمقدسى فی الأحادیث المختارۃ، ۳۱۵، ۳۱۴/۹، الرقم: ۲۷۴ ، والعسقلانی فی فتح الباری، ۳۲۹/۹ ، والشوکانی فی درالسحابة، ۲۷۴/۱۶ -

۱۱: أخرجه الحاکم فی المستدرک، ۱۶۷/۳، الرقم: ۴۷۳۰ ، والطبرانی فی المعجم الكبير، ۱، ۱۰۸/۱، الرقم: ۱۸۲ ، وأيضاً، ۴۰۱/۲۲ ، الرقم: ۱۰۰۱ ، وابن أبي عاصم فی الأحاد والمثانی، ۳۶۳/۵ ، الرقم: ۲۹۵۹ ، والدولابی فی الذریة الطاهرة/۰، ۱۲۰ ، الرقم: ۲۳۵  
والقزوینی فی التدوین فی أخبار قزوین، ۱۱/۳ -

۱۲: أخرجه أحمد بن حنبل فی المستند، ۳۳۲/۴ ، وفي فضائل الصحابة، ۷۶۵/۲ ، الرقم: ۱۳۴۷ ، والحاکم فی المستدرک، ۱۶۸/۳ ، الرقم: ۴۷۳۴ ،

اللَّهُمَّ إِنَّمَا فَاطِمَةُ شَجَنَةُ مِنِّي يُسْطِنِي مَا يُسْطِلُهَا وَيَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

”حضرت مسورة بنت خضراء رض سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ میری ٹھنی ہے، جس چیز سے اسے خوشنی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشنی ہوتی ہے اور جس چیز سے اُسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔“ اس حدیث کو امام احمد، حاکم نے مذکورہ الفاظ میں اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔




---

..... وابن أبي عاصم في الأحاديث والمتانى، ٣٦٢/٥، الرقم: ٢٩٥٦  
والطبراني في المعجم الكبير، ٢٥/٢٠، الرقم: ٣٠، وأبو نعيم في  
حلية الأولياء، ٢٠٦/٣، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢٠٣/٩۔

### ۳. فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهَا سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

﴿حضور ﷺ کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقام و

#### مرتبہ کا بیان ﴿﴾

١٣/٧٤ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهٍ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَثُ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِّكَثُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: سَارَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجْهِهِ الَّذِي تُوْفَى فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتَبْعُهُ، فَضَحِّكَتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی ﷺ نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا یا پھر ان سے کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں۔ پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ نہ پڑیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ

١٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ، ١٣٦١ / ٣، الرقم: ٣٥١، وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ١٣٢٧ / ٣، الرقم: ٣٤٢٧، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، ٤ / ٤٠٤، ٢٤٥٠، والنمسائى في فضائل الصحابة : ٧٧، الرقم: ٢٩٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٧٧ / ٦، وفي فضائل الصحابة، ٢ / ٧٥٤، الرقم: ١٣٢٢ -

رضي الله عنها فرماتی ہیں: میں نے اس بارے میں سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے میرے کان میں فرمایا: آپ ﷺ کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی، پھر آپ ﷺ نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا: میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی اس پر میں نہ پڑی۔“  
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

عَنْ جُمِيعِ بْنِ عُمَيرِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمْتِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: فَاطِمَةُ، فَقِيلَ: مِنِ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: رَوْجُهَا، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّاماً فَوَاماً. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت جمیع بن عمير تیمیؑ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: حضور نبی اکرم ﷺ کو کون زیادہ محبوب تھا؟ اُمُّ المؤمنین رضی الله عنہا نے فرمایا: فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کیا گیا: مردوں میں سے (کون زیادہ محبوب تھا)؟ فرمایا: ان کے شوہر، جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لئے بہت قیام کرنے والے تھے۔“

١٤: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب ما جاء فى فضل فاطمة بنت محمد ﷺ، ٢٠١٥، الرقم: ٣٨٧٤، والحاكم فى المستدرك، ١٧١/٣، الرقم: ٤٧٤٤، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٢٢/٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٩، ١٠٠٨، وابن الأثير فى أسد الغابة، ٧/٢١٩، والذهبي فى سير أعلام النبلاء، ٢٥/٢، والمزى فى تهذيب الكمال، ٤/٥١٢، والشوكانى فى در السحابة، ١/٢٧٣۔

اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

١٥/٧٦ . عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُبَيِّهِ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلَيْهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت بریدہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے تھی اور مردوں میں سے حضرت علی المرضی ﷺ سب سے زیادہ محبوب تھے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

١٦/٧٧ . عَنْ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةً، وَأَوَّلُ مَنْ

١٥ : أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب ما جاء فی فضل فاطمة بنت محمد ﷺ، ٦٩٨/٥، الرقم: ٣٨٦٨، والننسائی فی السنن الكبرى، ١٤٠/٥، الرقم: ٨٤٩٨، والحاکم فی المستدرک، ١٩٩/٣، الرقم: ٤٧٣٥، والطبرانی فی المعجم الأوسط، ١٦٨، والذهبی فی سیر أعلام البلاء، ٢/١٣١، والشوکانی فی در السحابة، ١٠/٢٧٤ -

١٦ : أخرجه أبو داود فی السنن، كتاب الترجل، باب ما جاء فی الانتفاع بالعاج، ٤/٨٧، الرقم: ٤٢١٣، وأحمد بن حنبل فی المسند، ٥/٢٧٥، والبيهقی فی السنن الكبرى، ١/٢٦، وزید البغدادی فی ترکة النبي ﷺ - ٥٧/٥ -

يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

”حضور نبی اکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان ؓ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتیں اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتیں۔“  
اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے۔

١٧/٧٨ . عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَاهَا قَدْ أَفْبَلَتْ رَحْبَ بِهَا، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ. وَكَانَتْ إِذَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ رَحْبَتْ بِهِ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحاكِمُ.

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا

١٧: أخرجه النسائي في السنن الكبرى، ٥/٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، الرقم: ٩٢٣٦، ٩٢٣٧، وابن حبان في الصحيح، ١٥/٤٠٣، الرقم: ٦٩٥٣ والحاكم في المستدرك، ٤/٣٠٣، الرقم: ٧٧١٥، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٣٣٦، الرقم: ٩٤٧، وابن أبي عاصم في الأحاديث المثنوي، ٥/٣٦٧، الرقم: ٢٩٦٧، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٢٤٢، الرقم: ٤٠٨٩، والدولابي في الذريعة الطاهرية، ١/١٠٠، الرقم: ١٨٤ -

لیتے اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ ﷺ کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتیں تو خوش آمدید کہتیں پھر کھڑی ہو جاتیں اور آپ ﷺ کو بوسہ دیتیں۔“  
اس حدیث کو امام نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

۱۸/۷۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلَيِّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَيْنِ، فَقَالَ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسَلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ. رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین ﷺ کی طرف نظرِ التفات کی اور فرمایا: جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا (یعنی جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے)۔“

اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۱۹/۸۰. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ

۱۸: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۴۲/۲، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ۷۶۷/۲، الرَّقم: ۱۳۵۰، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ، ۱۶۱/۳، الرَّقم: ۴۷۱۳، وَالْطَّبَرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ، ۴۰/۳، الرَّقم: ۲۶۲۱ وَالخطيب فِي تاریخ بغداد، ۱۳۷/۷، وَالذَّهَبِیُّ فِي سِیرِ اَعْلَامِ النَّبَلَاءِ، ۱۲۲/۲، ۲۵۷/۳، ۲۵۸/۳ -

۱۹: أخرجه الحاکم فی المستدرک، ۱۶۷/۳، الرقم: ۴۷۳۲، وفی النسائی فی فضائل الصحابة، ۷۸/۱، الرقم: ۲۶۴، وابن راہویہ فی المسند، ۸/۱، الرقم: ۶، والبیهقی فی السنن الکبری، ۱۰۱/۷، وفی شعب الإیمان، ۶/۴۶۷، الرقم: ۸۹۲۷ -

[فَاطِمَةٌ] إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ سَلَامُهُ رَحْبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا  
وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالنَّسَائِيُّ.

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم ﷺ سیدہ سلام اللہ علیہا کو خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر بوس دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

٢٠/٨١ . عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَتْ فَاطِمَةُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ سَلَامُهُ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَرَحَبَ بِهَا وَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَتْ هِي إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ قَامَتْ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَةً وَقَبَّلَتْ يَدَهُ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ .

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم ﷺ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوس دیتے خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے، اور جب آپ ﷺ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کھمی آپ ﷺ کے استقبال کے لئے کھڑی ہو جاتیں اور آپ ﷺ کے

٢٠: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٧٤/٣، الرقم: ٤٧٥٣، والمحب الطبرى في ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربي/٨٥، والهيثمى فى موارد الظمان/٥٤٩، الرقم: ٢٢٢٣، والعسقلانى فى فتح البارى، ٥٠، والشوكانى فى در السحابة، ٢٧٩/١ -

دست اقدس کو بوسہ دیتیں۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٢١/٨٢      **عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ النَّاسِ عَهْدًا بِهِ فَاطِمَةَ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فَاطِمَةَ رضي الله عنها فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَدَاكِ أَبِي وَأُمِّي.**  
**رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.**

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو کر کے سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی ہوتیں، اور یہ کہ حضور نبی اکرم ﷺ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے: (فاطمہ!) میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

٢٢/٨٣      **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه:**  
**يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنَا أُمُّ فَاطِمَةٌ؟ قَالَ: فَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ**

٢١: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٦٩/٣، ١٧٠، ٤٧٣٩،  
 ، ٤٧٤، وابن حبان في الصحيح، ٤٧٠/٢، ٤٧١، الرقم: ٦٩٦  
 والهيثمي في موارد الظمان/٦٣١، الرقم: ٢٥٤٠، وابن عساكر في  
 تاريخ دمشق الكبير، ٤٣/١٤١ -

٢٢: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٣٤٣/٧، ٧٦٧٥،  
 والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٧٣/٩، والمناوي في فيض القدير،  
 ٤٢٢/٤ -

مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعْزُّ عَلَيَّ مِنْهَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ابو ہریرہ رض روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے (بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں) عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو میرے اور حضرت فاطمہ میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم میرے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہو۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔



## ٤. فَصْلٌ فِي كَوْنِهَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

﴿سَيِّدَهَا فَاطِمَةُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا كَا سَارَتْ جَهَانُوْں کی عورتوں کی

سَرْدَارْ ہونے کا بیان﴾

٤/٢٣ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: لَمْ تَبْكِيْنِ؟ ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِّكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيُومَ فَرَحَا أَفْرَبُ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: أَسْرَ إِلَيَّ إِنَّ جِرْبِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةً مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَافًا بِي. فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضِيْنِ، أَنْ تَكُونُنِي سَيِّدَةً نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَضَحِّكَتْ لِذِلِّكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ١٣٢٦، ١٣٢٧، الرقم: ٣٤٢٧، ٣٤٢٦، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ٤/٤، ١٩٠٤، الرقم: ٢٤٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند،

”حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا آئیں اور ان کا چلنا ہو بھو حضور نبی اکرم ﷺ کے چلنے جیسا تھا۔ پس آپ ﷺ نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا باکیں جانب بٹھایا، پھر چکے چکے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ ﷺ نے ان سے کوئی بات چکے چکے کہی تو وہ نہ پڑیں۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے (حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے) پوچھا: آپ سے حضور نبی اکرم ﷺ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں رسول اللہ ﷺ کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے (اُس بارے میں) پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: آپ ﷺ نے مجھ سے یہ سرگوشی کی کہ جبراً ایں ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک بار دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال دو مرتبہ کیا ہے، میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آپ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو! تو اس بات پر میں نہ پڑی۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٤/٨٥ . عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قالَتْ: قَالَ رَسُولُ

٢٤: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب الاستئذان، باب من ناجي بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه، ٢٣١٧/٥، الرقم: ٥٩٢٨،  
ومسلم فى الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، ١٩٠٥/٤، الرقم: ٢٤٥٠، والنمسائى فى فضائل الصحابة، ٧٧، الرقم: ٢٦٣، وأحمد بن حنبل فى فضائل الصحابة، ١٣٤٢، والطیالسى فى المسند/١٩٦، الرقم: ٧٦٢/٢  
١٣٧٣، وابن سعد فى الطبقات الكبرى، ٢٤٧/٢۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَنَّا قُبْ فَاطِمَةَ الرَّزَّهْرَاءِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. مُتَّفِقُ عَلَيْهِ.

”أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَفْرَمَايَا: حَضُورُنِي أَكْرَمَ مَلَكُوتَكَمْ نَفْرَمَايَا: اَنْتِ فَاطِمَةُ! كَيْا تمْ اسْ بَاتْ پَرْ رَاضِي نَبِيِّنِیں ہو کے تمْ مُسْلِمَانَ عُورَتوں کی سردار ہو یا میری اسْ اُمَّتِ کی سبْ عُورَتوں کی سردار ہو؟“  
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٥/٨٦ . عَنْ حُذَيْفَةَ (صَحِيفَةَ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): إِنَّ هَذَا مَلَكُ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ الْلَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

”حضرت حذيفة (صَحِيفَةَ) بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نے فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اُترا تھا، اُس نے اپنے پروگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں

٢٥: أخرجه الترمذى فى السنن، ٥/٦٦٠، الرقم: ٣٨٧١، والنسائى فى السنن الكبير، ٥/٩٥، الرقم: ٨٢٩٨، ٨٣٦٥، وفي فضائل الصحابة/٥٨، ٧٦، الرقم: ١٩٣، ٢٦٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/٣٩١، وفي فضائل الصحابة، ٢/٧٨٨، الرقم: ١٤٠٦، وابن أبي شيبة فى المصنف، ٦/٣٨٨، الرقم: ٣٢٢٧١، والحاكم فى المستدرك، ٣/٤٧٢١، ٤٧٢٢، الرقم: ٤٧٢٢.

کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٢٦/٨٧ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ شَفِيعَهُ لِلنَّاسِ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خَطُوطٍ. قَالَ: تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَفِيعَهُ لِلنَّاسِ: أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بْنُتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بْنُتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ بْنُتُ مُزَاحِمٍ امْرَأُ فِرْعَوْنَ، وَمَرِيمُ ابْنَةُ عُمَرَانَ رضي الله عنهم أجمعين. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے زمین پر چار (۴) کلیریں کھپتیں اور فرمایا: تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین (چار) ہیں: خدیجہ بنت خویلید، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہم اجمعین۔“

اسے امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

٢٦: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ٢٩٣/١، ٣١٦، ٢٩٣، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ٧٦١، ٧٦٠/٢، الرَّقم: ١٣٣٩ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْسُّنْنِ الْكَبِيرِ، ٩٣/٥، ٩٤، الرَّقم: ٨٣٥٥، ٨٣٦٤، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ/٧٤، ٧٦، الرَّقم: ٢٥٩، ٢٥٠، وَابْنُ حِبَانَ فِي الصَّحِيفَةِ، ٤٧٠/١٥، الرَّقم: ٧٠١٠، وَالحاكمُ فِي الْمُسْتَدِرِكَ، ٥٣٩/٢، الرَّقم: ٤٧٥٤، ٣٨٣٦، وَأَيْضًا، ١٧٤/٣، الرَّقم: ٤٧٥٢

٢٧/٨٨ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي تُوْفَىَ فِيهِ: يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونُنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ .  
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ .

”حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں کی اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟“ اسے امام نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٢٨/٨٩ . عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارَنِي، فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ فِي زِيَارَتِي، فَبَشَّرَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي: أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أُمَّتِي . رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ وَالْبَخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ .

”حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، پس اُس نے اللہ تعالیٰ سے میری

٢٧ : أخرجه النسائي في السنن الكبرى، ٤ / ٢٥١، الرقم: ٧٠٧٨، وأيضاً، ١٤٦ / ٥، الرقم: ٨٥١٧ ، والحاكم في المستدرك، ٣ / ١٧٠، الرقم: ٤٧٤٠ ، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٢ / ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٦ / ٨ ، وأبي الأثير في أسد الغابة، ٧ / ٢١٨ -

٢٨ : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٤٠٣ / ٢٢ ، الرقم: ١٠٠٦ ، والبخاري في التاريخ الكبير، ١ / ٢٣٢، الرقم: ٧٢٨ ، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٢ / ١٢٧ ، والمزي في تهذيب الكمال، ٢٦ / ٣٩١ -

زیارت کی اجازت لی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی (یا) مجھے خبر دی کہ فاطمہ میری اُمت کی عورتوں کی سردار ہیں۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام بخاری نے ’التاریخ الکبیر‘ میں روایت کیا ہے۔



## ٥. فَصُلْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَاجِهَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا

﴿ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی سے متعلقہ امور کا بیان ﴾

٢٩/٩. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةً مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْوَعَهَا، وَاللَّهُ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ. مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت مسور بن مخرمة روايت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک فاطمہ میرے جگر کا گلزار ہے اور اس کی ناراضگی مجھے پسند نہیں۔ خدا کی قسم! کسی شخص کے پاس رسول اللہ اور دشمن خدا کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتیں۔“  
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب المناقب، باب ذكر أصحاب النبي ﷺ، ١٣٦٤/٣، الرقم: ٣٥٢٣، ومسلم فى الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، ١٩٠٣/٤، الرقم: ٢٤٤٨، وابن ماجه فى السنن، كتاب النكاح، باب الغيرة، ١/٦٤٤، الرقم: ١٩٩٩، وأحمد بن حنبل فى فضائل الصحابة، ٧٥٩/٢، الرقم: ١٣٣٥، وابن حبان فى الصحيح، ٤٠٨، ٤٠٧/١٥، ٥٣٥، الرقم: ٦٩٥٦، ٦٩٥٧، ٧٠٦٠، والطبرانى فى المعجم الكبير، ١٨/٢٠، ١٩، الرقم: ١٨، ٤٠٥/٢٢، وأيضاً، الرقم:

٣٠/٩١ عن المسور بن مخرمة الله سمع رسول الله ﷺ على المنبر، وهو يقول: إِنَّ بَنِي هِشَامَ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوهَا بَنْتَهُمْ، عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا آذُنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا آذُنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا آذُنُ لَهُمْ. وَقَالَ ﷺ: إِنَّمَا أُبْتَيَ بَصْعَةً مِنِّي. يَرِبُّنِي مَا رَأَاهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالترْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

”حضرت مسor بن مخرمة ﷺ نے روایت کیا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو منبر پر فرماتے سن: بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا علی سے رشتہ کرنے کی محض سے اجازت مانگی ہے۔ میں انہیں اجازت نہیں دیتا اور بارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا، سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا اور حضور نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا: میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، اُس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٣٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، ٤/٢٤٤٩، الرقم: ١٩٠٢، والترمذى في السنن، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد ﷺ، ٥/٦٩٨، الرقم: ٣٨٦٧، وأبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، ٢٢٦/٢، الرقم: ٢٠٧١، وابن ماجه في السنن، كتاب النكاح، باب الغيرة، ٦٤٣/١، الرقم: ١٩٩٨، والمسائى في السنن الكبرى، ١٤٧/٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٣٢٨، ٣٢٨، وفي فضائل الصحابة، ٧٥٦/٢، الرقم: ١٣٢٨ -

٣١/٩٢ . عَنْ بُرِيْدَةَ ﷺ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبُنَاءِ ، قَالَ: يَا عَلِيُّ، لَا تُحِدِّثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَا إِفْتَوَضَّا مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِي شَيْلِهِمَا.

وفي رواية عنه: وَبَارِكْ لَهُمَا فِي نَسْلِهِمَا.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبرَانِيُّ.

”حضرت بریدہ ﷺ سے روایت ہے حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی کی رات حضرت علی ﷺ سے فرمایا: مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا پھر آپ ﷺ نے پانی ملنگوایا، اس سے وضو کیا پھر حضرت علی ﷺ پر پانی ڈال کر فرمایا: اے اللہ! ان دونوں کے حق میں برکت اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، ان دونوں کے لئے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔“

اس حدیث کو امام نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٢/٩٣ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

٣١: أخرجه النسائي في السنن الكبرى، ٦/٧٦، الرقم: ١٠٠٨٨، وفي عمل اليوم والليلة/٢٥٣، الرقم: ٢٥٨، والروياني في المسند، ١/٧٧، الرقم: ٣٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٠/٢، الرقم: ١١٥٣، وابن الأثير في أسد الغابة، ٢١٧/٧، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٢١/٨، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٢٠ -

٣٢: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٥٦/١٠، الرقم: ١٣٠٥، والحسيني في البيان والتعريف، ١/١٧٤، الرقم: ٥٥٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٢٠٤، والحلبي في الكشف الحيث، ١/١٧٤، والمناوي في فيض القدير، ٢/٢١٥ -

قالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أُزِوْجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلَيٍّ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت عبد الله بن مسعود رض روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٣/٩٤. عَنْ أَنَسِ رض عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم لِعَلِيٍّ: هَذَا جَرْبِيلُ يُخْرِنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَّجَكَ فَاطِمَةَ، وَأَشْهَدَ عَلَى تَزْوِيجِكَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَأَوْحَى إِلَى شَجَرَةِ طُوبَى أَنِ انشِرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، فَتَشَرَّطَ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعَيْنُ يَلْتَقِطُنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتِ، فَهُمْ يَتَهَادُونَ بَيْنَهُمْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ مُحَبُّ الطَّبْرَيُّ.

”حضرت انس رض سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رض سے فرمایا: یہ جریل القلبي مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر چالیس ہزار فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا، اور شجر ہائے طوبی سے فرمایا: ان پر موتی اور یاقوت چھاہو کرو پھر دلکش آنکھوں والی حوریں اُن موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں۔ جنہیں (تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے) فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تھائف دیں گے۔“ اس حدیث کو محب طبری نے روایت کیا ہے۔

٣٤/٩٥ . عَنْ عَلِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي مَلَكٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنِّي قَدْ رَوَجْتُ فَاطِمَةَ ابْنَتَكَ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى، فَزَوَّجْتُهَا فِي الْأَرْضِ . رَوَاهُ مُحَبُّ الطَّبَرِيُّ .

”حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس ایک فرشتہ نے آ کر عرض کیا: اے محمد! اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام پھیجا ہے اور فرمایا ہے: میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ملاء اعلیٰ میں علی بن ابی طالب سے کر دیا ہے، پس آپ زمین پر بھی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔“ اس حدیث کو محب طبری نے روایت کیا ہے۔

## ٦. فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهَا سلام الله عليهما يَوْمَ الْقِيَامَةِ

﴿ روزِ قیامت سیدہ فاطمہ سلام الله علیہا کے مقام و مرتبہ کا

بیان ﴿

٣٥/٩٦. عَنْ عَلَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: إِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذِينَ وَهَذَا الرَّأْدُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  
رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْبُزَّارُ.

”حضرت علی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے سیدہ فاطمہ سلام الله علیہا سے فرمایا: (اے فاطمہ!) میں، تو اور یہ دونوں (حسن و حسین) اور یہ سونے والا (حضرت علی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کیونکہ اس وقت آپ سوکراٹھے ہی تھے) روزِ قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے، اس حدیث کو امام احمد اور بزار نے روایت کیا ہے۔

٣٦/٩٧. عَنْ عَلَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ

٣٥: أخرجه أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ١/١٠١، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ٢/٦٩٢، الرَّقْمُ: ١١٨٣، وَالبِزَّارُ فِي الْمُسْنَدِ، ٣/٢٩، الرَّقْمُ: ٧٧٩، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ، ٢/٥٩٨، الرَّقْمُ: ١٣٢٢، وَالْهَشِيمِيُّ فِي مُجْمِعِ الزُّوَّاِدِ، ٩/١٦٩، ١٦٩/١٧٠، وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي أَسْدِ الْغَابَةِ، ٧/٢٢٠ -

٣٦: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/٦٦، الرَّقْمُ: ٤٧٢٨، وَالْمَحْبُ الطَّبَرِيُّ فِي ذَخَائِرِ الْعَقْبَىِ، ١/٩٤، وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي أَسْدِ الْغَابَةِ، ٧/٢٦٣، وَالْعَجْلُونِيُّ فِي كِشْفِ الْخَفَاءِ، ١/١٠١، الرَّقْمُ:

يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: يَا أَهْلَ الْجَمْعِ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَنْ فَاطِمَةِ بُنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى تَمُرَّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سن: قیامت کے دن ایک نداء دینے والا پردازے کے پیچھے سے آواز دے گا: اے اہلِ محشر! اپنی نگاہیں جھکا لوتا کہ فاطمہ بنت مصطفیٰ ﷺ گزر جائیں۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٧/٩٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تُبَعَّثُ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الدَّوَابِ لِيُوَافُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَوْمِهِمُ الْمُحَشَّرِ، وَتُبَعَّثُ صَالِحٌ عَلَى نَاقِهِ، وَتُبَعَّثُ عَلَى الْبَرَاقِ خَطُوطُهَا عِنْدَ أَفْصَى طَرَفِهَا، وَتُبَعَّثُ فَاطِمَةُ أَمَّامِي. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: انبیاءؐ کرام قیامت کے دن سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ میدانِ محشر میں تشریف لائیں گے اور صالحؐ اپنی اونٹی پر لائے جائیں گے اور مجھے براق پر لا جائے گا، جس کا قدم اُس کی منتها نگاہ پر پڑے گا اور میرے آگے آگے سیدہ فاطمہ ہوں گی۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٨/٩٩. عَنْ عَلَيٍّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ

٣٧: آخرجه الحاکم فی المستدرک، ١٦٦/٣، الرقم: ٤٧٢٧۔

٣٨: آخرجه الحاکم فی المستدرک، ١٦٤/٣، الرقم: ٤٧٢٣، وابن عساکر فی تاریخ دمشق الكبير، ١٧٣/١٤، والهندي فی کنز العمال،۔

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِنَّا وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَينُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَحِبُّونَا؟ قَالَ: مِنْ وَرَائِكُمْ. رَوَاهُ الطَّحاَفِيُّ.

”حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتایا: (میرے ساتھ) سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں، میں، فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پیچھے ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٩/٤٠ . عَنْ عَلَيِّ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup>، عَنِ النَّبِيِّ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> قَالَ: إِنَّا وَعَلَيْيُّ وَفَاطِمَةً وَحَسَنًّا وَحُسَيْنًا مُجْتَمِعُونَ وَمَنْ أَحَبَّنَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادِ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہو گا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیئے جائیں گے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٠/٤١ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup>: يُنَادِي

٩٨/١٢ ، الرَّقم: ٣٤١٦٦ ، والهيثمي في الصواعق المحرقة، ٤٤٨/٢

والمحب الطبرى فى ذخائر العقبى، ١/٤٢ -

٣٩: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٣/٤١ ، الرَّقم: ٢٦٢٣ ، والهيثمى فى مجمع الروايد، ٩/١٧٤ -

٤٠: أخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد، ٨/٤٢ ، والمحب الطبرى فى ذخائر العقبى/٩٤ -

**مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: غُضُوْا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.** رَوَاهُ الْخَطِيبُ.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: روز قیامت ایک ندادینے والا آواز دے گا: اپنی نگاہیں جھکا لوتا کہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ ﷺ گزر جائیں۔“ اس حدیث کو خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔

**٤١/١٠٢ . عَنْ عَلَيٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُمِلَتْ عَلَى الْبُرَاقِ وَحُمِلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةِ الْعَضْبَاءِ . رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ.**

”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن مجھے براق پر اور فاطمہ کو میری سواری عضباء پر بٹھایا جائے گا۔“  
اس حدیث کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

**٤٢/١٠٣ . عَنْ أَبِي إِيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ: يَا أَهْلَ الْجَمْعِ، نَكْسُوْا رُؤُوسَكُمْ وَغُضُوْا**

٤١: آخرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق الكبير، ۱۰/۳۵۳۔

٤٢: آخرجه المحب الطبری فی ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القریبی، ۹۴/۱، والهندي فی کنز العمال، ۱۰۶، ۱۰۵/۱۲، الرقم: ۳۴۲۱، وابن جوزی فی تذكرة الخواص، ۱/۲۷۹، والهیثمی فی الصواعق المحرقة، ۲/۵۵۷، والمناوی فی فیض القدیر، ۱/۴۲۰،

أَبْصَارَ كُمْ حَتَّى تُمَرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّرَاطِ فَتَمُرُّ وَمَعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ كَالْبَرْقِ الْلَّامِعِ. رَوَاهُ مُحَبُّ الطَّبَرِيُّ.

”حضرت ابو ایوب انصاری رض سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندادینے والا آواز دے گا: اے محشر والو! اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لوتا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ پس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح ستر ہزار خادماں کیں ہوں گی۔“ اس حدیث کو محب طبری نے روایت کیا ہے۔

٤٣/٤. عَنْ عَلَيٰ رض، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: تُحْشَرُ أَبْنَتِي فَاطِمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا حُلَّةُ الْكَرَامَةِ قَدْ عُجِنَتْ بِمَاءِ الْحَيَاَنِ، فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا الْخَلَائِقُ، فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، ثُمَّ تُكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَّ [تَشْتَمِلُ] عَلَى أَلْفِ حُلَّةٍ مَكْتُوبٍ [عَلَيْهَا] بِخَطِّ أَخْضَرٍ: أَدْخِلُوا ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الْجَنَّةَ عَلَى أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَكْمَلِ هَيْبَةٍ وَأَتْمِ كَرَامَةٍ وَأَوْفِرِ حَظًّا. فَتُنْزَفُ إِلَى الْجَنَّةِ كَالْعُرُوسِ حَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةً.  
رَوَاهُ مُحَبُّ الطَّبَرِيُّ.

”حضرت علی رض روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری بیٹی سیدہ فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہو گا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے۔ ساری مخلوق اسے دیکھ کر دمگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس

پہنایا جائے گا جس کا ہر حلہ ہزار حلوں پر مشتمل ہو گا، ہر ایک پر بزرگ نخط سے لکھا ہو گا: محمد کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل ہیبت، تمام تر کرامت اور بے پناہ عزت و احترام سے جنت میں لے جاؤ۔ پس آپ کو دہن کی طرح سجا کر ستر ہزار حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لا یا جائے گا۔“ اس حدیث کو محب طبری نے روایت کیا ہے۔



## ٧. فَصْلٌ فِي جَامِعِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا

﴿ سَيِّدَةُ فَاطِمَةِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا كَجَامِعِ مَنَاقِبِ كَا بِيَانُ ﴾

٤٤ / ١٠٥ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الدَّيْرِ قُبْضَ فِيهَا، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحَّكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجْهِهِ الَّذِي تُوْفَى فِيهِ، فَبَكَيْتْ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتَبْعُهُ، فَضَحَّكَتْ. مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کو بلا یا پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں۔ پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ نہیں پڑیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں: میں نے اس بارے میں سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا: حضور نبی اکرم ﷺ نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ ﷺ کا اسی مرض میں وصال ہو۔

٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ، ١٣٦١/٣، الرقم: ٣٥١١، وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ١٣٢٧/٣، الرقم: ٣٤٢٧، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، ٤/١٩٠٤، الرقم: ٢٤٥٠، والنسائي في فضائل الصحابة: ٧٧، الرقم: ٢٩٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٧٧/٦، وفي فضائل الصحابة، ٢/٧٥٤، الرقم: ١٣٢٢ -

جائے گا۔ پس میں رونے لگی، پھر آپ ﷺ نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی اس پر میں ہنس پڑی۔“  
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٤٥ / ٤٦ . عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادِرْ مِنَا وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَمُشِّي، وَلَاَ اللَّهُ، مَا تَحْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت مسروق رضي الله عنه روایت کرتے ہیں کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنہا نے فرمایا: ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی، اتنے میں حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا وہاں تشریف لے آئیں، تو اللہ کی قسم! ان کا چلنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے ذرہ بھر مختلف نہ تھا۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٤٥: أَخْرَجَهُ الْبَخْارِيُّ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ الْإِسْتِذَانِ، بَابُ مِنْ نَاجِيِّ بَنِي النَّاسِ وَمِنْ لَمْ يَسْرُ صَاحِبَهُ فَإِذَا ماتَ أُخْبِرَ بِهِ، ۲۳۱۷/۵، الرَّقْمُ: ۵۹۲۸، وَمُسْلِمُ فِي الصَّحِيفَةِ، كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ، ۱۹۰۵/۴، الرَّقْمُ: ۲۴۰، وَالنِّسَائِيُّ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ۷۷/۲۶۳، الرَّقْمُ: ۱۳۴۲، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ۷۶۲/۲، الرَّقْمُ: ۱۹۶، وَالْطِبَالِسِيُّ فِي الْمُسْنَدِ/۱۹۶، الرَّقْمُ: ۱۳۷۳، وَابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الْكَبِيرِ، ۲۴۷/۲، وَالْدُّوَلَابِيُّ فِي الْذَرِيَّةِ الطَّاهِرَةِ، ۱۰۱/۱۰۲، الرَّقْمُ: ۱۸۸۔

٤٦/١٠٧ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمْ يُغَاذِرْ مِنْهُنَّ امْرَأً ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِابْنِتِي . فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ..... الحديث . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجِهٍ وَالنَّسَائِيُّ .

”حضرت عائشة صديقه رضي الله عنها بيان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی تمام آزادی اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضي الله عنها آئیں جن کی چال رسول اللہ ﷺ کے چلنے کے مشابہ تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مرحا (خوش آمدید) میری بیٹی! پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بھالیا۔“  
اسے امام مسلم، ابن ماجہ اورنسائی نے روایت کیا ہے۔

٤٧/١٠٨ . عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ

٤٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، ١٩٠٦، ١٩٠٥/٤، الرقم: ٢٤٥٠، وابن ماجه في السنن، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ، ١/١٨، ١٦٢٠، الرقم: ٩٦/٥، والنمسائي في السنن الكبرى، ٢٥١/٤، الرقم: ٧٠٧٨، ١٤٦، الرقم: ٢٦٣، ٨٥١٦، ٨٥١٧، وفي فضائل الصحابة، ٧٧، الرقم: ٢٠/١، الرقم: ٢-

٤٧: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد ﷺ، ٧٠٠/٥، الرقم: ٣٨٧٢، وأبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب ما جاء في القيام، ٤/٣٥٥، الرقم: ٥٢١٧، والنمسائي في فضائل الصحابة/٧٨، الرقم: ٢٦٤، والحاكم -

أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلَالًا وَهَدِيًّا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قِيَامَهَا وَقُعُودَهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ..... الحديث. رواه الترمذى وابو داود.

”أم المؤمنين حضرت عائشة رضي الله عنها روايت كرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام الله علیہما سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ ﷺ سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔

٤٨/١٠٩ . عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَلَامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جَلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي الْأَدْبِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِيَانَ.

”أم المؤمنین حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے انداز گفتگو میں حضرت فاطمة الزهراء رضي الله عنها سے بڑھ کر کسی اور کو حضور نبی اکرم ﷺ سے اس قدر

..... فی المستدرک، ٤/٣٠٣، الرقم: ٧٧١٥، والبیهقی فی السنن  
الکبری، ٩٦/٥، وابن سعد فی الطبقات الکبری، ٢٤٨/٢، وابن  
الجوزو فی صفة الصفوۃ، ٦/٢ - ٧،

٤٨: أخرجه البخاري في الأدب المفرد/٣٢٦، ٣٧٧، الرقم: ٩٤٧،  
والنسائي في السنن الكبير، ٣٩١/٥، الرقم: ٩٢٣٦، وابن  
حيان في الصحيح، ٤٠٣/١٥، الرقم: ٦٩٥٣، والحاكم في  
المستدرک، ١٦٧/٣، ١٧٤، الرقم: ٤٧٥٣، ٤٧٣٢، والطبراني في  
المعجم الأوسط، ٢٤٢/٤، الرقم: ٤٠٨٩٠، والبیهقی فی السنن  
الکبری، ١٠١/٧، وابن راهوية في المستند، ١/٨، الرقم: ٦ -

مشابهہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔“

اس حدیث کو امام بخاری نے الأدب المفرد میں اور امام نسائی و ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

٤٩/١١٠ . عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: قَدْ نُعِيَتِ إِلَى نَفْسِي، فَبَكَتْ، فَقَالَ: لَا تَبْكِي، إِنَّكَ أُولَئِكَ الْأَهْلِي لَآخِرَتْ بِي، فَصَحَّحَتْ، فَرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ: يَا فَاطِمَةُ، رَأَيْنَاكِ بَكِيَتْ، ثُمَّ صَحَّحَتْ قَالَتْ: إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَدْ نُعِيَ إِلَيْهِ نَفْسَهُ فَبَكَيْتْ، فَقَالَ لَيْ: لَا تَبْكِي إِنَّكَ أُولَئِكَ الْأَهْلِي لَآخِرَتْ بِي فَصَحَّحَتْ . رواه الدارمي .

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب آیت: ”جب اللہ کی مدد اور فتح آپنچے۔“ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا یا اور فرمایا: میری وفات کی خبر آگئی ہے، وہ روپڑیں۔ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: مت رو، بے شک تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی تو وہ نہ پڑیں، اس بات کو آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی بعض ازواج نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا: فاطمہ! (کیا ماجرا ہے)، ہم نے آپ کو پہلے روتے اور پھر ہنسنے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا: حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مجھے بتایا: میری وفات کا وقت آپنچا ہے۔ (اس پر) میں روپڑی، پھر آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: مت رو، تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے ملوگی، تو میں نہ پڑی۔“ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔

٥٠. ١١١ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ الَّهُمَّ، إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .  
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ .

”حضرت انس بن مالک رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلوات الله عليه وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے خصوصی دعا فرمائی: اے اللہ! میں (اپنی) اس (بیٹی) اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔“

اس حدیث کو امام ابن حبان، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥١. ١١٢ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه وسلم مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ، وَفَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .  
”حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے مروی ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی اور حضرت فاطمہ الزہراء (رضي الله عنهما) سے بڑھ کر حضور صلوات الله عليه وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔“  
اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٥٠: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ١٥ / ٣٩٤، ٣٩٥، الرقم: ٦٩٤.  
والطبراني في المعجم الكبير، ٤٠٩ / ٢٢، الرقم: ١٠٢١، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ٧٦٢ / ٢، الرقم: ١٣٤٢، والهيثمي في موارد الظمآن، ٥٥١، ٥٥٠، الرقم: ٢٢٢٥، وابن الجوزي في تذكرة الخواص، ٢٧٧ / ١، ومحب الطبرى في ذخائر العقبى، ٦٧ / ١

٥١: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣ / ١٦٤ -

٥٢/١١٣ . عَنْ أُمِّ سَلْمَى رضي الله عنها، قَالَتْ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ سلام الله عليهما شَكُواهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهِ، فَكُنْتُ أُمِّ رِضْهَا فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا كَامْثَلِ مَارَأَيْتُهَا فِي شَكُواهَا تِلْكَ . قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلَيْهِ لِعَضْ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّهُ، اسْكُنِي لِي غُسْلًا، فَسَكُنْتُ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ كَاحْسَنَ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ، أَعْطِينِي. ثِيَابِي الْجُدُّ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ، قَدِيمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ، فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعْتُ وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلْتُ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهُ، إِنِّي مَقْبُوضَةُ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكُشِّفُنِي أَحَدٌ، فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

”حضرت أم سلمى رضي الله عنها رواية كرتى ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام الله عليها اپنی مرض موت میں بیٹلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ بیماری کے اس پورے عرصہ کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علیؓ کسی کام سے باہر گئے۔ سیدہ کائنات نے کہا: اے اماں! میرے عسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی۔ آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین عسل کیا۔ پھر بولیں: اماں جی! مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں۔ ہاتھ

- ٥٢: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ٤٦١/٦، الرَّقْمُ: ٢٧٦٥٦  
- ٢٧٦٥٧ ، وَالدُّولَابِيُّ فِي النَّزِيرِ الطَّاهِرَةِ، ١١٣/١ ، وَالزَّيلِيُّ فِي  
نصب الراية، ٢٥/٢ ، وَالطَّبَرِيُّ فِي ذِخَارِ الْعَقْبَى فِي مَنَاقِبِ ذُو  
القرى، ١٠٣/١ ، وَالْهَيْشَمِيُّ فِي مَجْمِعِ الرَّوَائِدِ، ٢١٠/٩ ، وَابْنِ الأَئْشِيرِ  
فِي أَسْدِ الْغَابَةِ، ٧/٢٢١ -

رخسار مبارک کے نیچے کر لیا پھر فرمایا: اما جی! اب میری وفات ہو جائے گی، میں (عنسل کر کے) پاک ہو چکی ہوں، لہذا مجھے کوئی نہ کھولے پس اُسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت اُمّ سلمی بیان کرتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔“ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٥٣/۱۱۴. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ: لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عُصْبَةٌ يَنْتَسِمُونَ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَبْنَى فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصْبُتُهُمَا.  
رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر ماں کی اولاد کا عصبه (باپ) ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، کہ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں“  
اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٥٤/۱۱۵. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

٥٣: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٧٩/٣، الرقم: ٤٧٧٠، والسعواوي في استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول ﷺ وذوى الشرف، ١٣٠/١ -

٥٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٥٣/٣، الرقم: ٤٦٨٤، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ٢٥٢/٢، ٦٢٦، ٦٢٥، ٧٥٨، ٦٢٦، ١٠٦٩، والبزار في المسند، ١/٣٩٧، الرقم: ٢٧٤، ١٠٧٠، ١٣٣٣، والبزار في المسند، ١/٣٩٧، الرقم: ٢٦٣٤، ٤٤، ٤٥، ٣٧٦/٥، الرقم: ٥٦٠٦، وأيضاً، ٣٥٧/٦، الرقم: ٦٦٠٩ -

اللهُ مُتَعَظِّمٌ يَقُولُ: كُلُّ نَسَبٍ وَسَبِّ يَنْقُطُعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبِّيْ وَنَسَبِيْ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ وَالْبَزارُ.

”حضرت عمر بن خطاب ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے: میرے نسب اور رشتہ کے سوا قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔“ اس حدیث کو امام حاکم، احمد اور بزار نے روایت کیا ہے۔

٥٥/١١٦ . عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، وَاللَّهُ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ، وَاللَّهُ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَيِّكِ لَيْلَةَ الْيَمِينِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكِ .

رواهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

”حضرت عمر بن خطاب ﷺ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے اور کہا: اے فاطمہ! خدا کی قسم! میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی اکرم ﷺ کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا اور خدا کی قسم! لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔“ اسے امام حاکم اور ابن أبي شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٥٦/١١٧ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٥٥: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٦٨/٣، الرقم: ٤٧٣٦ ، الرقم: ٤٣٢/٧ ، الرقم: ٤٥ ، وأحمد بن حنبل في شيبة في المصنف، ٣٧٠ ، الرقم: ٣٦٤/١ ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثنى، ٣٦٠/٥ ، الرقم: ٢٩٥٢ ، والخطيب في تاريخ بغداد، ٤٠١/٤ .

٥٦: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٤٠٧/٢٢ ، الرقم: ١٠١٨ ،

إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَهَا اللَّهُ وَذَرَّيْهَا عَلَى النَّارِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَارُ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اور اُس کی اولاد کو آگ پر حرام فرمادیا ہے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی، بزار اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٥٧/١١٨      عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِفَاطِمَةَ رضي الله عنها: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْرَ مُعَذِّبِكِ وَلَا وُلْدِكِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضي الله عنها سے فرمایا: اللہ تعالیٰ تھیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

٥٨/١١٩      عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ

..... والبزار في المسند، ٢٢٣/٥، الرقم: ١٨٢٩، والحاكم في المستدرك، ١٦٥/٣، الرقم: ٤٧٢٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٤/١٨٨، والسخاوي في إستجلاب إرتقاء الغرف، ١١٦، ١١٥/١ - ٥٧: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢٦٣/١١، الرقم: ١١٦٨٥ والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢٠٢/٩، والسخاوي في إستجلاب إرتقاء الغرف، ١١٧/١ -

٥٨: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢٧٢١/٣، الرقم: ١٣٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢٠١/٩، والشوكتاني في در السحابة، ٢٧٧/١، الرقم: ٢٤ -

رضي الله عنها غير أبيها. رواه الطبراني.

”حضرت عائشة صديقه رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ میں نے فاطمہ رضي الله عنها سے افضل ان کے بابا طلاقیتہم کے علاوہ کوئی شخص نہیں پایا۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٩/١٢٠ . عن ابن عباسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله طلاقیتہم لفاطمة

رضي الله عنها: أنت أول أهلي لحوفا بي. رواه أحمد في الفضائل وأبو نعيم.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله عنها سے مردی ہے کہ رسول اللہ طلاقیتہم نے سیدہ فاطمہ رضي الله عنها سے فرمایا: میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔“ اس حدیث کو امام احمد نے ”فضائل الصحابة“ میں اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

٦٠/١٢١ . عن عمرو بن دينارٍ، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما

رأيت أحداً قط أصدق من فاطمة غير أبيها. رواه أبو نعيم.

”حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقه رضي الله عنها نے فرمایا: فاطمہ رضي الله عنها کے بابا طلاقیتہم کے سوا میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔“ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

٦١/١٢٢ . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: قال رسول

٥٩: أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ٢/٧٦٤، الرقم:

٤٠/٢ - ١٣٤٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٢/٤٠ -

٦٠: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ٢/٤١ - ٤٢٠،

٦١: أخرجه الديلمي في مسنـد الفردوس، ١/٣٤٦، الرقـم: ١٣٨٥ -

اللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِنِتِي فَاطِمَةَ لَا نَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ. رَوَاهُ الدَّيْلِمِيُّ.

”حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

٦٢٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِيزَانَ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ كَفَتَاهُ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ خُيُوطُهُ، وَفَاطِمَةُ عَالَاقَتُهُ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِي عُمُودُهُ يُوزَنُ بِهِ أَعْمَالُ الْمُحِبِّينَ لَنَا وَالْمُبْغِضِينَ لَنَا. رَوَاهُ الدَّيْلِمِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا پلڑا ہے، حسن اور حسین اُس کی رسیاں ہیں، فاطمہ اُس کا دستہ ہے اور میرے بعد آئے اطہار (اُس ترازو کی) عمودی سلاخ ہیں، جس کے ذریعے ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں اور بعض رکھنے والوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔“ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

والهندي في كنز العمال، ١٠٩/١٢، الرقم: ٣٤٢٢٧، والسعداوي في استحلاب إرتقاء الغرف، ٩٦/١۔

٦٢: أخرجه الديلمي في مسنـد الفردوس، ٤٤/١، الرقم: ١٠٧، والعجلوني في كشف الخفاء، ٢٣٦/١۔



### الْبَابُ الْثَالِثُ:

مَنَاقِبُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كرم الله وجهه الكريم

﴿حضرت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه الكريم کے مناقب﴾



## ۱. فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَصَلَّى

﴿ حَضْرَتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ قَبُولِ اسْلَامِ اُولِيَّ اُولَئِكَ مِنْ اُولَيْتِ کَا بیان ﴾

۱/۱۲۴ . عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيِّ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

”ایک انصاری شخص ابو الحمزہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زید بن ارقامؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے حضرت علیؓ ایمان لائے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲/۱۲۵ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بُعْثَ النَّبِيُّ لِتَبَرِّئُهُمْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ

: اخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على علیؓ، ۱/۱۲۵، الرقم: ۳۷۳۵، ۶۴۲، الرقم: ۳۶۷/۴، وأحمد بن حنبل في المسند، ۳۶۷/۴، وابن أبي شيبة في المصنف، ۳۷۱/۶، الرقم: ۳۲۱۰۶، والطبراني في المعجم الكبير، ۱۱/۴۰۶، الرقم: ۱۲۱۵۱، وأيضاً، ۴۵۲/۲۲، الرقم: ۱۱۰۲، والحاكم في المستدرک، ۳/۴۴۷، الرقم: ۴۶۶۳، والهيثمي في مجمع الزوائد، ۹/۱۰۲۔

: اخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب، ۱/۶۴۰، الرقم: ۳۷۲۸، والحاكم في المستدرک، ۳/۱۲۱، الرقم: ۴۵۸۷، والمناوي في فيض القدير، ۴/۳۵۵۔

وَصَلَى عَلَيْيَ يَوْمَ الشُّلَاثَاءِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ پیر کے دن حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی رضي الله عنه نے نماز پڑھی۔“  
اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣/ ۱۲۶ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَى عَلَيْهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ غَلامٌ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهمَا سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی رضي الله عنه نے نماز پڑھی۔“

”اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا: اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه اسلام لائے اور بعض نے کہا: سب سے پہلے حضرت علی رضي الله عنه اسلام لائے۔ جبکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر رضي الله عنه ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضي الله عنه ہیں کیونکہ

٣: آخر جهہ الترمذی فی السنن، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن أبي طالب، ٦٤٢ / ٥، الرقم: ٣٧٣٤ -

وہ آٹھ برس کی عمر میں اسلام لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف ہے اسلام ہونے والی حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا ہیں۔“

٤/ ۱۲۷ . عَنْ عَمْرِ وْ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةِ: قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ حَدِيْحَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ .

”حضرت عمرو بن ميمون رضي الله عنه حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت علی رضي الله عنه لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔“  
اس حدیث کو امام احمد اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔

٥/ ۱۲۸ . عَنْ حَبَّةَ الْعُرْنَى قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا صَاحِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ، لَمْ أَرُهُ صَاحِكَ صِحْنَكَ أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى بَدَثَ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: ذَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ نُصَلِّي بِيَطْنَ نَخْلَةَ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعَانِ يَا بْنَ أَخِي؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: مَا بِالَّذِي تَصْنَعَانِ يَأْسٌ أَوْ بِالَّذِي تَقُولَانِ

٤: آخرجهه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ۱/ ۳۳۰، الرَّقم: ۳۰۶۲، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ، ۶۰۳/۲، وَابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاتِ الْكَبِيرِ، ۲۱/۳، وَالْهَيْشَمِي فِي مَجْمِعِ الزَّوَادِ، ۱۱۹/۹۔

٥: آخرجهه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ۱/ ۹۹، الرَّقم: ۷۷۶، وَالْطَّيَالِسِي فِي الْمُسْنَدِ، ۱/ ۳۶، الرَّقم: ۱۸۸، وَالْهَيْشَمِي فِي مَجْمِعِ الزَّوَادِ، ۹/۱۰۲۔

بَأْسٌ وَلِكُنْ وَاللَّهُ، لَا تَعْلُو نِي سِنِي أَبَدًا، وَضَحِكَ تَعْجِبًا لِقَوْلِ أَبِيهِ ثُمَّ  
قَالَ: اللَّهُمَّ لَا أَعْتَرِفُ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدَكَ قَبْلِي، غَيْرَ  
نَبِيِّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَقَدْ صَلَيْتُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ سَبْعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

”حضرت جب عرنی عليه السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی عليه السلام کو منبر پر ہنسٹے  
ہوئے دیکھا اور میں نے کبھی بھی آپ عليه السلام کو اس سے زیادہ ہنسٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں  
تک کہ آپ عليه السلام کے دانت نظر آنے لگے۔ پھر آپ عليه السلام نے فرمایا: مجھے اپنے والد ابو  
طالب کا قول یاد آگیا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے پاس آئے جبکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
کے ساتھ تھا اور ہم وادیٰ خلہ میں نماز ادا کر رہے تھے، پس انہوں نے کہا: اے میرے  
بھتیجے! آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو  
انہوں نے کہا: جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ  
کبھی بھی (تجربہ میں) میری عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ پس حضرت علی عليه السلام اپنے والد کی  
اس بات پر ہنس دیئے پھر فرمایا: اے اللہ! میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت کے  
کسی اور فرد نے تیری عبادت کی ہو سوائے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تین مرتبہ دھرایا پھر  
فرمایا: تحقیق میں نے عامۃ الناس کے نمازوں پر ہنسنے سے سات سال پہلے نماز ادا کی۔“

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٦/١٢٩      عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: أَوْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَرُوْدًا عَلَى  
نَبِيِّهَا طَلَّيْلَمَ أَوْلُهَا إِسْلَامًا، عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام. رَوَاهُ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ.

٦: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢٦٧/٧، الرقم: ٣٥٩٥٤  
والطبراني في المعجم الكبير، ٢٦٥/٦، الرقم: ٦١٧٤، وابن أبي  
عاصم في الأحاديث المثنوي، ١٤٩/١، الرقم: ١٧٩، وابن سعد في  
الطبقات الكبرى، ٣١/٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠٢/٩۔

”حضرت سلمان فارسی ﷺ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں سے سب سے پہلے حوض کوثر پر حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول حضرت علی بن ابی طالب ؓ ہیں۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔



## ٢. فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهِ وَجِئْنَاهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ بارگاہ رسالت میں حضرت علی ﷺ کے مقام و مرتبہ کا بیان ﴾

٧/١٣٠. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبِيَّانِ؟ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

”حضرت سعد بن ابی وقارث ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی ﷺ کو مدینہ میں چھوڑ دیا، حضرت علی ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون ﷺ کی حضرت موسیٰ ﷺ سے تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔

٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المغازى، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، ١٦٠٢/٤، الرقم: ٤١٥٤، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، ١٨٧١/٤، ١٨٧٠، والترمذى في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب، ٢٤٠٤، والترمذى في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب، ٦٣٨/٥، الرقم: ٣٧٢٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٨٥١، الرقم: ١٦٠٨، وابن حبان في الصحيح، ٣٧٠/١٥، الرقم: ٦٩٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤٠/٩۔

٨/١٣١ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ وَقَدْ خَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَلَفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبَّارِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونُنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْرٍ: لَا تُعْطِيَنَ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: فَتَطَاوَلَنَا لَهَا فَقَالَ: اذْعُوا لِي عَلِيًّا فَاتَّيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّأْيَةَ إِلَيْهِ. فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَلَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوْ أَبْنَائَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ [آل عمران، ٦١:٣]، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ، هُوَ لَأَهْلِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرمِذِيُّ.

”حضرت سعد بن أبي وقاص رض بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مغازی میں حضرت علی رض کو پیچھے چھوڑ دیا، حضرت علی رض نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رض سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہارون صلی اللہ علیہ وسلم تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا اور غزوہ خیر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ کل میں اس شخص کو جہنمدا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور

٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب رض، ١٨٧١/٤، الرقم: ٢٤٠٤، والترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب رض، ٦٣٨/٥، الرقم: ٣٧٢٤ -

اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، سو ہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار میں تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: علی کو میرے پاس لائیں، حضرت علیؓ کو لاایا گیا، اس وقت وہ آشوب چشم میں بیٹلا تھے، آپ ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دئیں ڈالا اور انہیں جھنڈا عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیر فتح کر دیا اور جب یہ آیت نازل ہوئی: ”آپ فرمادیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاو۔“ تو حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسینؑ کو بلایا اور کہا: اے اللہ! یہ میرا کنبہ ہے۔“ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

٩/١٣٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَوْ بْنِ هِنْدِ الْجَمْلِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُصْلِحًا أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَثْتُ ابْتَدَأْنِي.

رواہ الترمذی والنسائی. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسْنٍ.

”حضرت عبد اللہ بن عمر و بن ہند جملی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: اگر میں حضور نبی اکرم ﷺ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ ﷺ مجھے عطا فرماتے اور اگر خاموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی دیتے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

: ۹ آخرجه الترمذی فی السنن، کتاب المناقب، باب مناقب علی،  
٥/٦٣٧، الرقم: ٣٧٢٩، ٣٧٢٢، والنسائی فی السنن الكبيری،  
٥/١٤٢، الرقم: ٨٥٠٤، والحاکم فی المستدرک، ٣/١٣٥، الرقم:  
٤٦٣، والمقدسى فی الأحادیث المختارۃ، ٢/٢٣٥، الرقم: ٤٦١۔

١٠ / ١٣٣ . عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا انتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ انتَجَاهُ.

رواءه الترمذى وأبنى أبي عاصم، وقال أبو عيسى: هـذا حديث حسن.

”حضرت جابر رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی رض کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، لوگ کہنے لگے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچازاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

١١ / ١٣٤ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِيْ وَغَيْرِكَ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُؤْنِدِ: قُلْتُ لِضَرَارِ بْنِ صُرَدَ: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ

١٠: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب، ٦٣٩/٥، الرقم: ٣٧٢٦، وابن أبي عاصم في السنة، ٥٩٨/٢، الرقم: ١٣٢١، والطبراني في المعجم الكبير، ١٨٦/٢، الرقم: ١٧٥٦ -

١١: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على، ٦٣٩/٥، الرقم: ٣٧٢٧، والبزار في المسند، ٣٦/٤، الرقم: ١١٩٧، وأبو يعلى في المسند، ٣١١/٢، الرقم: ١٠٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٦٥/٧، الرقم: ١٣١٨١ -

لَا أَحَدٌ يَسْتَطِرُ قُوَّةً جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرُكَ.

رواه الترمذی والبزار وأبو يعلی، وقال أبو عیسی: هذَا حَدیث حَسَنٌ.

”حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے علی! میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں رہے۔ امام علی بن منذر کہتے ہیں کہ میں نے ضرار بن صرد سے اس کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا: اس سے مراد مسجد کو بطور راستہ استعمال کرنا ہے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، بزار اور ابو یعلی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

١٢ / ١٣٥ . عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيِّشًا فِيهِمُ عَلِيُّ قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدِيهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، لَا تُمْتَنِي حَتَّى تُرِينِي عَلَيْيَا . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ . وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدیث حَسَنٌ .

”حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اس میں حضرت علیؓ بھی تھے میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ! مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو (واپس بخیرو عافیت) نہ دیکھ لوں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے بیان کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

١٢: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على،  
٥/٦٤٣، الرقم: ٣٧٣٧، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٥/٦٨،  
الرقم: ١٦٨، وفي المعجم الأوسط، ٣/٤٨، الرقم: ٢٤٣٢، وأحمد  
بن حنبل في فضائل الصحابة، ٢/٩٠، الرقم: ١٠٣٩ -

١٣٦ . عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحْمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوْجِي ابْنَتِهِ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ، وَأَعْنَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، رَحْمَ اللَّهُ عُمَرَ، يَقُولُ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرَأً، تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحْمَ اللَّهُ عُثْمَانَ، تَسْتَحِيهُ الْمَلَائِكَةُ، رَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ، أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ . رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ .

”حضرت علیؑ“ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دار الہجرہ لے کر آئے اور بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے یہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اگرچہ وہ کڑوی ہوا سی لئے وہ اس حال میں ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے۔ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے۔ اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

١٤ / ١٣٧ . عَنْ حُبْشَيْ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيُّ

١٣ : أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب، ٦٣٣/٥، الرقم: ٣٧١٤ ، والحاكم في المستدرک، ١٣٤/٣،  
الرقم: ٤٦٢٩ ، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩٥/٦ ، الرقم: ٥٩٠٦ ، والبزار في المسند، ٥٢/٣ ، الرقم: ٨٠٦ ، وأبويعلى في  
المسند، ٤١٨/١ ، الرقم: ٥٥٠ -

١٤ : أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب، ٦٣٦/٥ ، الرقم: ٣٧١٩ ، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب  
فضل على بن أبي طالب، ٤٤/١ ، الرقم: ١١٩ ، وأحمد بن حنبل في -

مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلَيِّ، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلَيْ.

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ

صَحِيحٌ.

”حضرت جبشي بن جنادہ ﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: علی ﷺ مجھ سے اور میں علی ﷺ سے ہوں اور میری طرف سے (عبد و پیان میں) میرے اور علی ﷺ کے سوا کوئی دوسرا (ذمہ داری) ادا نہیں کر سکتا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

١٥/١٣٨ . عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: آخِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلَيْيِ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آخِيَتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالحاكِمُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ.

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائد کی تو حضرت علی ﷺ روتے ہوئے

..... المسند ١٦٥/٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٦٦/٦، الرقم:

٣٢٠٧١، والطبراني في المعجم الكبير، ١٦/٤، الرقم: ٣٥١١، وابن

أبي عاصم في الأحاديث المثنوي، ١٨٣/٣، الرقم: ١٥١٤ -

١٥: آخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب مناقب علی بن أبي طالب، ٦٣٦/٥، الرقم: ٣٧٢٠، والحاکم فی المستدرک، ١٥/٣،

الرقم: ٤٢٨٨ -

آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔“  
اسے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

١٦/١٣٩ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْرٌ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ، اثْنُنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَا كُلُّ مَعِيَ هَذَا الطَّيْرُ، فَجَاءَ عَلَيْيِ فَأَكَلَ مَعَهُ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ .

”حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا، آپ ﷺ نے دعا کی: یا اللہ! اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علیؑ آئے اور آپ ﷺ کے ساتھ وہ گوشت تناول کیا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

١٧/١٤٠ . عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٦: آخر جه الترمذی فی السنن، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب، ٦٣٦ / ٥، الرقم: ٣٧٢١، والطبرانی فی المعجم الأوسط، ٩٣٧٢، الرقم: ١٤٦ / ٩، وابن حیان فی طبقات المحدثین بأصبهان، ٤٥٤ / ٣ -

١٧: آخر جه الترمذی فی السنن، کتاب المناقب باب فضل فاطمة بنت محمد ﷺ، ٦٩٨ / ٥، الرقم: ٣٨٦٨، والحاکم فی المستدرک، ٤٧٣٥، الرقم: ١٦٨ / ٣، والطبرانی فی المعجم الأوسط، ١٣٠ / ٨، الرقم: ٧٢٥٨ -

فَاطِمَةُ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلَيٍّ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”حضرت بريده رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت علی رضي الله عنه تھے۔“

اس حدیث کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

١٤١. عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمْتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَاطِمَةُ، فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: رَوْجُهَا، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّاماً قَوَّاماً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”حضرت جمیع بن عمیر تمیمی رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضي الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا پھر میں نے ان سے پوچھا: لوگوں میں کون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر عرض کیا گیا اور مردوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا: ان کے شوہر اگرچہ مجھے ان کا زیادہ روزے رکھنا اور زیادہ قیام کرنا معلوم نہیں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا:

١٨: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي السِّنْنِ، كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ فَضْلِ فَاطِمَةِ بَنْتِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ٥/٧٠١، الرَّقم: ٣٨٧٤، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ،

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۹/۱۴۲ . عَنْ حَنْشِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشِينِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّي عَنْهُ فَإِنَّ أَضَحِّي عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

”حضرت حنش ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ﷺ کو دو مینڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں لہذا میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔“

اس حدیث کو امام ابو داود اور احمد نے روایت کیا ہے۔

۲۰/۱۴۳ . عَنِ ابْنِ نُجَيْرٍ قَالَ عَلِيٌّ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلٌ مَدْخَلًا: مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحَّيَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

۱۹: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت، ۹۴/۳، الرقم: ۲۷۹۰، وأحمد بن حنبل في المسند، ۱/ ۱۵۰، الرقم: ۱۲۸۵ -

۲۰: أخرجه النساءي في السنن، كتاب السهو، باب التتحنج في الصلاة، ۱۲/۳، الرقم: ۱۲۱۲، وفي السنن الكبرى، ۳۶۰/۱، الرقم: ۱۱۳۶، وابن ماجه في السنن، كتاب الأدب، باب الاستذان، ۲۴۲/۵، الرقم: ۳۷۰۸، وابن أبي شيبة في المصنف، ۲۵۶۷۶ -

”حضرت عبد اللہ بن نجیہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: میں دن رات میں دو دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ جب میں آپ ﷺ کی خدمت اندر میں رات کے وقت حاضر ہوتا (اور آپ ﷺ نماز ادا فرم رہے ہوتے) تو آپ ﷺ مجھے اجازت عنایت فرمانے کے لئے کھانتے۔“  
اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٤٤ / ٢١ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلَيْيِ  
لَا قَرْبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: عُدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
غَدَاءً بَعْدَ غَدَاءٍ يَقُولُ: جَاءَ عَلَيِّ مَرَارًا. قَالَتْ: وَأَطْعُنُهُ كَانَ بَعْثَةً فِي  
حَاجَةٍ. قَالَتْ فَجَاءَ بَعْدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجْنَا مِنَ الْبُيْتِ  
فَقَعَدْنَا عِنْدَ الْبَابِ فَكُنْتُ مِنْ أَذْنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ  
يُسَارُهُ وَيَنْجِيْهُ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ أَقْرَبَ  
النَّاسِ بِهِ عَهْدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالحاكِمُ.

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اس ذات کی قسم جس کا میں حلف اٹھاتی ہوں حضرت علیؓ لوگوں میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ عہد کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے آئے روز حضور نبی اکرم ﷺ کی عیادت کی، آپ ﷺ فرماتے کہ علی (میری عیادت کے لئے) بہت مرتبہ آیا ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو کسی ضروری کام سے

٢١: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ٦/٣٠٠، الرَّقم: ٢٦٦٠٧  
والحاكم في المستدرك، ٣/٤٩، الرَّقم: ٤٦٧١، والهيثمي في  
مجمع الروايد، ٩/١١٢ -

بھیجا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت علیؑ تشریف لائے تو میں نے سمجھا انہیں شاید حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کوئی کام ہو گا سو ہم باہر آگئے اور دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ دروازے کے قریب تھی پس حضرت علیؑ حضور نبی اکرم ﷺ پر جھک گئے اور آپ ﷺ سے سرگوشی کرنے لگے پھر اس دن کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ پر وصال فرم� گئے پس حضرت علیؑ سب لوگوں سے زیادہ عہد کے اعتبار سے حضور نبی اکرم ﷺ کے قریب تھے۔“ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

۲۲/۱۴۵ عَنْ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ جَعْفَرٌ وَعَلِيٌّ وَرَزِيدُ بْنُ حَارِثَةَ. فَقَالَ جَعْفَرُ: أَنَا أَحَبُّكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَبُّكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَزِيدُ: أَنَا أَحَبُّكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَسَامَةُ بْنُ رَزِيدٍ: فَقَالُوا: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَسْأَلَهُ فَقَالَ أَسَامَةُ بْنُ رَزِيدٍ: فَجَاءُوكُمْ يَسْتَأْذِنُونَهُ فَقَالَ: أُخْرُجْ فَانْظُرْ مَنْ هُوَ لَاءِ فَقُلْتُ: هَذَا جَعْفَرُ وَعَلِيٌّ وَرَزِيدٌ مَا أَقُولُ: أَبِي، قَالَ: ائْذُنْ لَهُمْ وَدَخُلُوا فَقَالُوا: مَنْ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَاطِمَةُ قَالُوا: نَسْأَلُكَ عَنِ الرِّجَالِ. قَالَ أَمَّا أَنْتَ، يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهَ خَلْقَكَ خَلْقِي وَأَشْبَهَ خُلُقَكَ خُلُقِي، وَأَنْتَ مِنِي وَشَجَرَتِي. وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ، فَخَاتَنِي وَأَبُو وَلَدِي، وَأَنَا مِنْكَ وَأَنْتَ مِنِّي وَأَمَّا أَنْتَ يَا رَزِيدُ، فَمُوَلَّايَ، وَمِنِّي وَإِلَيَّ، وَأَحَبُّ الْقَوْمِ إِلَيَّ.

۲۲: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ۲۰۴/۵، الرقم: ۲۱۸۲۵

والحاكم في المستدرك، ۲۳۹/۳، الرقم: ۴۹۵۷، والمقدسي في

الأحاديث المختارة، ۱۵۱/۴، الرقم: ۱۳۶۹، والهيثمي في مجمع

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيفٌ.

”حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر اور حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم ایک دن اکٹھے ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہوں پھر انہوں نے کہا چلو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں پس وہ تینوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیکھو یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا: جعفر علی اور زید بن حارثہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں آنے دو پھر وہ داخل ہوئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے مردوں کے بارے عرض کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جعفر! تمہاری خلقت میری خلقت سے مشابہ ہے اور میرے خلقت تمہارے خلقت سے مشابہ ہیں اور تو مجھ سے اور میرے شجرہ نسب سے ہے۔ اے علی! تو میرا داماد اور میرے دو بیٹوں کا باپ ہے اور میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ اور اے زید! تو میرا غلام اور مجھ سے اور میری طرف سے ہے اور تمام قوم سے تو مجھے پسندیدہ ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

٢٣/١٤٦ . عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَوَايَةِ طَوْبِيلَةِ:

- ٢٣ : أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ١ / ٣٣٠، الرَّقْمُ: ٦٢ -

قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ فُلَانًا بِسُورَةِ التَّوْبَةِ. فَبَعَثَ عَلِيًّا خَلْفَهُ فَأَخْذَدَهَا مِنْهُ، قَالَ: لَا يَدْهُبُ بِهَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنِيْ وَأَنَا مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

”حضرت عمرو بن ميمون ﷺ حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے کسی کو سورہ توبہ دے کر بھیجا پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو اس کے پیچے بھیجا پس انہوں نے وہ سورہ اس سے لے لی۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس سورہ کو سوائے اس آدمی کے جو مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں کوئی اور نہیں لے جا سکتا۔“  
اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

۲۴۷. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اشْتَكَى عَلَيْا النَّاسُ. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا حَطِيبًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَشْكُوا عَلَيْا، فَوَاللَّهِ، إِنَّهُ لَا يُحِسِّنُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

”حضرت ابوسعید خدری ﷺ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علیؓ کے بارے میں کوئی شکایت کی۔ تو حضور نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبه ارشاد فرمایا۔ پس میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سننا: اے لوگو! علی کی شکایت نہ کرو، اللہ کی قسم وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے راستے میں بہت سخت ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور امام حاکم نے فرمایا: یہ

۲۴: أَخْرِجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۸۶/۳، الرَّقْمُ: ۱۱۸۳۵  
وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ، ۱۴۴/۳، الرَّقْمُ: ۴۶۵۴، وَابْنُ هَشَامٍ فِي  
السِّيرَةِ النَّبُوَيَّةِ، ۶/۸۔

حدیث صحیح الاسناد ہے۔

**٢٥/١٤٨** عن أم سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا غَضِبَ لِمَ يَجْتَرِي أَحَدٌ مِنَا أَنْ يُكَلِّمَهُ إِلَّا عَلَيْهِ.

رواہ الطبرانی و الحاکم، و قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد.

”حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم ﷺ کے ناراضگی کے عالم میں ہوتے تو ہم میں سے آپ ﷺ کے ساتھ سوائے حضرت علیؓ کے کسی کو کلام کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔“

اس حدیث کو امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

**٢٦/١٤٩** عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ عَلَيْهِ مَعْنَى فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا وَرَسُولُهُ وَجِبْرِيلُ عَنْكَ رَاضُونَ.

رواہ الطبرانی.

”حضرت ابو رافعؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کو ایک جگہ بھیجا، جب وہ واپس تشریف لائے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ، اس کا رسول ﷺ اور جبرايلؑ تم سے راضی ہیں۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

**٢٥**: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٣١٨، الرقم: ٤٣١٤،  
والحاكم في المستدرك، ٣/١٤١، الرقم: ٤٦٤٧، والهيثمي في  
مجمع الزوائد، ٩/١١٦.

**٢٦**: أخرجه الطبراني في المجمع الكبير، ١/٣١٩، الرقم: ٩٤٦، والهيثمي  
في مجمع الزوائد، ٩/١٣١.

### ٣. فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

﴿ حَضَرَ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ كَاهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَهْنَةِ هُنَّا كَبِيَانٌ ﴾

٢٧/١٥. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَمَّا نَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَقُلْ تَعَاوَلُوا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ﴾ [آل عمران، ٢١:٣٠] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”حضرت سعد بن أبي وقاص رض بیان کرتے ہیں کہ جب آیتِ مبارکہ: ”آپ فرمادیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلا تے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاو۔“ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کو بلایا، پھر کہا: یا اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

٢٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رض، ١٨٧١/٤، الرقم: ٢٤٠٤، والترمذى فى السنن، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، باب ومن سورة آل عمران، ٢٢٥/٥، الرقم: ٢٩٩٩، وفي كتاب المناقب عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، باب (٢١)، ٦٣٨/٥، الرقم: ٣٧٢٤، وأحمد بن حنبل فى المسند، ١٨٥/١، الرقم: ١٦٠٨، والنسائى فى السنن الكبرى، ١٠٧/٥، الرقم: ٨٣٩٩، والحاكم فى المستدرك، ١٦٣/٣، الرقم: ٤٧١٩، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٦٣/٧، الرقم: ١٣١٦٩ -

اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا:  
یہ حدیث حسن ہے۔

٢٨/١٥١ عنْ صَفِيَّةَ بْنَتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاءً وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحَّلٌ ، مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ . فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلَيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِّبَ عَنْكُمُ الرِّجَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا .  
رواه مسلم وابن أبي شيبة.

”حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی الله عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرمایا، پھر حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے، پھر سیدہ فاطمہ رضی الله عنہا آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرمایا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت

٢٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيته، النبي، ٤/١٨٨٣، الرقم: ٢٤٢٤، وأبي شيبة في المصنف، ٦/٣٧٠، الرقم: ٣٦١٠٢، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ٢/٦٧٢، الرقم: ١١٤٩، والحاكم في المستدرك، ٣/١٥٩، الرقم: ٤٧٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/١٤٩، وأبي راهويه في المسند، ٣/٦٧٨، الرقم: ١٢٧١۔

مبارکہ پڑھی: ”اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی دُور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔“

اس حدیث کو امام مسلم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٢٩/١٥٢ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْرُرُ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ: الصَّلَاةُ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا﴾ .

رواهة الترمذی وأحمد. وقال أبو عیسیٰ: هذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ.

”حضرت انس بن مالک صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے روایت ہے کہ چھ (٦) ماہ تک حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لئے نکلتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازہ کے پاس سے گزرتے ہوئے فرماتے: اے اہل بیت! اے اہل بیت! نماز قائم کرو (اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے): ”اے اہل بیت! اللہ چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی دُور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔“

٢٩: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، ٣٥٢/٥، الرقم: ٣٢٠٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢٥٩/٣، ٢٨٥، وفي فضائل الصحابة، ٧٦١/٢، الرقم: ١٣٤٠، والحاكم في المستدرك، ١٧٢/٣، الرقم: ٤٧٤٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٨٨/٦، الرقم: ٣٢٢٧٢، وابن أبي عاصم في الأحاديث المثناني، ٣٦٠/٥، الرقم: ٢٩٥٣، وعبد بن حميد في المسند، ٣٦٧/١، الرقم: ١٢٢٢٣۔

اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے نیز امام ترمذی نے فرمایا کہ  
یہ حدیث حسن ہے۔

٣٠/١٥٣ عنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَئِيبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَمَّا  
نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ  
الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا  
فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكَسَاءٍ، وَعَلَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ  
فَجَلَّلَهُ بِكَسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، هُوَلَاءِ أَهْلَ بَيْتِي، فَادْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجُسَ  
وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالحاكِمُ.

”پورڈہ نبی حضرت عمر بن الی سلمہ ﷺ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی  
اکرم ﷺ پر حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ آیت مبارکہ اے اہل بیت! اللہ تو  
یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی ڈور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر  
دے“ نازل ہوئی۔ تو آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین ﷺ کو  
بلایا اور ایک چادر میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی ﷺ حضور نبی اکرم ﷺ کے پیچھے تھے،  
آپ ﷺ نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا: الہی! یہ میرے اہل بیت ہیں، ان  
سے ہر آلوگی کو ڈور کر دے اور انہیں خوب پاک و صاف فرمادے۔“

٣٠: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب التفسير، باب و من سورة  
الأحزاب، ٣٥١/٥، الرقم: ٣٢٠٥، وفي كتاب المناقب، باب مناقب  
أهل بيت النبي، ٦٦٣/٥، الرقم: ٣٧٨٧، وأحمد بن حنبل فى  
المسنن، ٢٩٢/٦، وفي فضائل الصحابة، ٥٨٧/٢، الرقم: ٩٩٤  
والحاكم فى المستدرك، ٤٥١/٢، الرقم: ٣٥٥٨، ١٥٨/٣، الرقم:  
٤٧٠٥، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٥٤/٣، الرقم: ٢٦٦٨۔

اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣١/١٥٤ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ : نَزَّلْتُ فِي خَمْسَةِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلِيٍّ ، وَفَاطِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ . رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ وَابْنُ حَيَّانَ .

”حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمان خداوندی: ”اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی ڈور کر دے۔“ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ پختن حضور نبی اکرم ﷺ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسینؑ کے حق میں نازل ہوئی۔“

اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن حیان نے روایت کیا ہے۔

٣٢/١٥٥ . عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ : لَمَّا نَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لَا أَسْكُنُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ قَرَبَتْكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ ؟ قَالَ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا . رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ .

٣١: آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٣٨٠/٣، الرقم: ٣٤٥٦، وفي المعجم الصغير، ٢٣١/١، الرقم: ٣٧٥، وابن حيان في طبقات المحدثين بأصبهان، ٣٨٤/٣، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٢٧٨/١٠۔

٣٢: آخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٤٧/٣، الرقم: ٢٦٤١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٦٨/٩۔

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔“ اے محبوب! فرمادیجئے کہ میں تم سے صرف اپنی قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں۔“ تو صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی قرابت والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: علی، فاطمہ، اور ان کے دونوں بیٹے (حسن اور حسین)۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٣/١٥٦      عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَعْقِدُ قَدَمًا عَبْدٍ حَتَّى يُسَأَّلَ عَنْ أَرْبَعَةِ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عَلَامَةُ حُبِّكُمْ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِ عَلِيٍّ.

رواہ الطبرانی.

”حضرت ابو بڑہ ﷺ بیان کرتے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک الگے جہاں میں نہیں پڑتے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے سوال نہ کر لیا جائے، اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا؟ اور اس کی عمر کے بارے میں کہ کس حال میں اسے ختم کیا؟ اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے یہ کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا؟ اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! آپ کی (یعنی اہل بیت کی) محبت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ ﷺ نے اپنا دست اقدس حضرت علی ﷺ کے شانے پر مارا (کہ یہ محبت کی علامت ہے)۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

## ٤. فَصْلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ

### فَعَلَيَّ مَوْلَاهُ

﴿فَرْمَانِ مَصْطَفِيِّ اللَّهِ عَزَّ ذِيَّلَهُمْ: جِسْ كَامِسْ مَوْلَا هُوَ اسْ كَاعِلِيْ مَوْلَا هُوَ﴾

١٥٧ / ٣٤ . عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهْيَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيعَةَ ..... أَوْ رَيْدَ بْنِ أَرْقَمَ، (شَكَّ

٣٤ : أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ٦٢٣/٥، الرقم: ٣٧١٣، والطبرانى فى المعجم الكبير، ١٩٥/٥، ٢٠٤، الرقم: ٥٠٩٦، ٥٠٧١ -

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُبْشَيْ بْنِ جُنَادَةَ فِي الْكُتُبِ الْأَتِيَّةِ: أخرجه الحاكم فى المستدرك، ١٣٤/٣، الرقم: ٤٦٥٢، والطبرانى فى المعجم الكبير، ١٢٢، ٧٨، الرقم: ١٢٥٩٣، وابن أبي عاصم فى السنة ٦٠٢، الرقم: ١٣٥٩، والهندى فى كنز العمال، ٦٠٨/١١، الرقم: ٣٢٩٤٦، وابن عساكر فى تاريخ دمشق الكبير، ٧٧/٤٥، ١٤٤، والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد، ٣٤٣/١٢، وابن كثير فى البداية والنهاية، ٤٥١/٥، والهيثمى فى مجمع الرواى، ١٠٨/٩ -

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْكُتُبِ الْأَتِيَّةِ -

أخرجه ابن أبي عاصم فى السنة ٦٠٢، الرقم: ١٣٥٥، وابن أبي شيبة فى المصنف، ٣٦٦/٦، الرقم: ٣٢٠٧٢ -

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُبُوبِ الْأَنْصَارِيِّ فِي الْكُتُبِ الْأَتِيَّةِ: -

شُعْبَةُ) ..... عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيُّ مَوْلَاهُ . رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ .  
وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ صَحِيحٍ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ  
مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

”حضرت شعبه عليه السلام بن كهيل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل  
سے سنا کہ ابو سریجہ ..... یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما ..... سے مردی ہے (شعبہ کو راوی کے  
متعلق تھک ہے) کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا علی مولا  
ہے۔“ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

شعبہ نے اس حدیث کو میمون ابو عبد اللہ سے، انہوں نے زید بن ارقم سے اور  
انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

آخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ٦٠٢، الرقم: ١٣٥٤ ، والطبراني في  
المعجم الكبير، ٤، ١٧٣، الرقم: ٤٠٥٢ ، والطبراني في المعجم الأوسط،  
٢٢٩١، الرقم: ٣٤٨

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدَةَ فِي الْكُتُبِ الْأُتْمَى:

آخرجه عبد الرزاق في المصنف، ١١/٢٢٥، الرقم: ٢٠٣٨٨ ،  
والطبراني في المعجم الصغير، ١: ٧١ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق  
الكبير، ٤٥/١٤٣ ، وابن أبي عاصم في السنة: ٦٠١ ، الرقم: ١٣٥٣ ، وابن  
كثير في البداية والنهاية، ٥/٥٧ ، والهندي في كنز العمال، ١١/٦٠٢ ،  
الرقم: ٤٠٩٢ -

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرَةَ فِي الْكُتُبِ الْأُتْمَى:

آخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٩/٢٥٢ ، الرقم: ٦٤٦ ، وابن  
عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٤٥/١٧٧ ، والهيثمي في مجمع  
الزوائد، ٩/٦١٠ -

٣٥٨ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَّينٍ، فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةٍ: إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي  
وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي.

رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ.

"حضرت عمران بن حصين رض ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔"

اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

٣٦٩ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رض قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم  
مِنْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ، أَمَرَ بِدُوْخَاتٍ، فَقُمْنَ، فَقَالَ: كَانَ

٣٥ : أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب مناقب علی بن أبي طالب، ٦٣٢/٥، الرقم: ٣٧١٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣٣٠، الرقم: ٣٠٦٢، وابن حبان في الصحيح، ٣٧٣/١٥، والحاکم في المستدرک، ١١٩/٣، الرقم: ٤٥٧٩، والنمسائی في السنن الكبرى، ١٣٢/٥، الرقم: ٨٤٧٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٧٣/٦، ٣٧٢، الرقم: ٣٢١٢١، وأبو يعلى في المسند، ٢٩٣/١، الرقم: ٣٥٥، والطبراني في المعجم الكبير، ١٢٨/١٨، الرقم: ٤٥٧٦ - ٢٦٥

٣٦ : أخرجه النسائي في السنن الكبرى، ٥/٤٥، ٤٥٠، ١٣٠، الرقم: ٨١٤٨، ٨٤٦٤، والطبراني في المعجم الكبير، ٥/١٦٦، الرقم: ٤٩٦٩، والحاکم في المستدرک، ٣٣٠/٣، الرقم: ٤٥٧٦ -

قَدْ دُعِيْتَ فَاجْبُثُ. إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمُ الشَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَتْرَتِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تُخْلِفُونِي فِيهِمَا، فِإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحُوْضَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَوْلَايَ وَأَنَا مَوْلَى كَلِّ مُؤْمِنٍ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللَّهُمَّ وَالِّيْهِ، وَالِّيْهُمْ، وَالِّيْهُمْ مَنْ وَالَّاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ.

**رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالحاكِمُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.**

”حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ جتنے کا الوداع سے واپس تشریف لائے اور غدری خم پر قیام فرمایا۔ آپ ﷺ نے سائبان لگانے کا حکم دیا، وہ لگادیئے گئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”جھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے (وصال کا) بلاوا آنے کو ہے، جسے میں قبول کرلوں گا۔ تحقیق میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں: ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری عترت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گی۔“ پھر فرمایا: بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا یہ ولی ہے، اے اللہ! جو اسے (علیؓ کو) دوست رکھے اور جو اس سے عداوت رکھے اُس سے تو مجھی عداوت رکھ۔“

اس حدیث کو امام نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

٣٧/١٦٠ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عَلِيٍّ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لَا نَمَكُونُ لَيْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعْمٍ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا عُطِينَ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالشَّاشِيُّ .

وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا، إِنَّ اللَّهَ وَلِيٌّ وَإِنَّا وَلِيٌّ كُلَّ مُؤْمِنٍ، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ الْهِنْدِيُّ .<sup>(١)</sup>

”حضرت سعد بن أبي وقاص صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حضرت علیؑ کی تین خصلتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر میں ان میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا تو وہ مجھے سُرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے (ایک موقع پر) فرمایا: علی میرے لیے اسی طرح ہے جیسے ہارون اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ موسیٰ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے لیے تھے، (وہ نبی تھے) مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور فرمایا: میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو (اس موقع پر) یہ فرماتے ہوئے بھی سن: جس کا میں

٣٧: أخرجه النسائي في خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/٣٣، ٣٤، ٨٨، الرقم: ٨٠٠، والشاشي في المسند،

١٦٦، ١٦٥/١، الرقم: ١٠٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير،

- ٤٥، ٨٨، والهندي في كنز العمال، ١٦٣/١٥، الرقم: ٣٦٤٩٦

(١) أخرجه الهندي في كنز العمال، ٦٠٨/١١، الرقم: ٣٢٩٤٥

والعسقلاني في الاصابة، ٤/٣٢٨ -

## الإِحَاجَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

مولو ہوں اُس کا علی مولا ہے۔ ”اس حدیث کو امام نسائی اور امام شاشی نے روایت کیا ہے۔

”اور ایک روایت میں حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آگاہ رہو! بے شک اللہ میرا ولی ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، پس جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔“

اس حدیث کو امام ہندی نے روایت کیا ہے۔

١٦١ / ٣٨ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مُؤْلَاهُ فَعِلْيٌ مَوْلَاهُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَأُعْطِيَنَ الرَّأْيَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

**رواہ ابن ماجہ والنمسائی فی الخصائص.**

”حضرت سعد بن ابی وقار رض سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں ولی ہوں اُس کا علی ولی ہے اور میں نے آپ ﷺ کو (حضرت علی رض سے) یہ فرماتے ہوئے سنا: تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون صلی اللہ علیہ وسلم، موسی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں نے آپ ﷺ کو (غزوہ خیبر کے موقع پر) یہ بھی فرماتے ہوئے سنا: میں آج اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔“

اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام نسائی نے خصائص علی بن ابی طالب میں روایت کیا ہے۔

٣٨: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، ٤٥ / ١، الرقم: ١٢١، والنمسائي في خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رض / ٣٢، ٣٣، الرقم: ٩١ -

٤٩/١٦٢ . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّجَةِ الَّتِي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالَّهُمَّ وَالَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَهُ، رَوَاهُ أَبْنُ مَاجِهِ.

”حضرت براء بن عازب رضي الله عنه رواية كرتة میں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز باجماعت (قام کرنے) کا حکم دیا، اس کے بعد حضرت علی رضي الله عنه کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: کیا میں مومنوں کی جانب سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس یہ (علی) ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ! جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ (اور) جو اس سے عداوت رکھے اُس سے تو بھی عداوت رکھ۔“ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٤٠/١٦٣ . عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْيَمَنَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ

٣٩ : أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب فضائل أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٨٨/١، الرقم: ١١٦ -

٤٠ : أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣٤٧/٥، الرقم: ٢٢٩٩٥ والنسائي في السنن الكبرى، ٥/١٣٠، الرقم: ٨٤٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٢/٨٤، الرقم: ١٢١٨١، والحاكم في المستدرك، ٣/١١٠، الرقم: ٤٥٧٨ -

جَفْوَةً، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُ عَلَيْهِ فَتَنَقَّصَتْهُ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ، أَلْسُنُتُ أُولَئِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَعَلَيَّ مَوْلَاهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

”حضرت بریدہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی ﷺ کے ساتھ یہیں کے غزوہ میں شرکت کی جس میں مجھے آپ سے کچھ شکوہ ہوا۔ جب میں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں واپس آیا تو میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے حضرت علی ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان میں کچھ تفصیل کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے بریدہ! کیا میں مومنین کی جانب سے قریب تر نہیں ہوں؟“ تو میں نے عرض کیا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی، امام ابن ابی شیبہ اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

٤١/٦٤ . عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﷺ وَأَنَا أَسْمَعُ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِي خُمٌّ، فَأَمَرَ

٤: آخرجه أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَبْلَةَ فِي الْمَسْنَدِ، ٤/٣٧٢، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْسَّنْتِ الْكَبِيرِ، ٥/١٣١، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمَعْجمِ الْكَبِيرِ، ٥/١٩٥، الرَّقْمُ:

بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّاَهَا بِهِجِيرٍ، قَالَ: فَخَطَبَنَا وَظَلَّلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُوبٍ عَلَى شَجَرَةِ سَمْرَةِ مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فِإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ، عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَالَّهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهِقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ميمون ابو عبد الله عليه السلام بيان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارم عليه السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وادی ..... جسے وادی خم کہا جاتا تھا ..... میں اترے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور سخت گرمی میں جماعت کروائی۔ پھر ہمیں خطبہ فرمایا درآں حکیمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لئے درخت پر کپڑا لٹکا کر سایہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم نہیں جانتے یا (اس بات کی) گواہی نہیں دیتے کہ میں ہر مومن کی جان سے قریب تر ہوں؟“، لوگوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے، اے اللہ! تو اُس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے اور اُسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے۔“ اس حدیث کو امام احمد، بیہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٢/١٦٥ . عَنْ عَلِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: مَنْ

٤٢: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ۱۵۲/۱، وَالْطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجمِ الْأَوْسَطِ، ۴۴۸/۷، الرَّقم: ۶۸۷۸، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ۷۰۵/۲، الرَّقم: ۱۲۰۶، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ ۴/۶۰، الرَّقم: ۱۳۶۹، وَابْنُ عَسَّاكِرٍ فِي تَارِيخِ دِمْشِقِ الْكَبِيرِ، ۱۶۱/۴۵، ۱۶۲، ۱۶۳، وَابْنُ كَثِيرٍ فِي الْبَدَائِيَّةِ وَالنَّهَايَةِ، ۴/۱۷۱، وَالْهَنْدِيُّ فِي —

كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيُّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الطَّبَرَانِيُّ.

”(خود) حضرت علی اللہ عَلَيْهِ السَّلَامُ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے غدیر خم کے دن فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٣/١٦٦ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: نَشَدَ عَلَيْيِّ الْأَنَّاسَ فَقَامَ خَمْسَةُ أَوْ سِتَّةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَشَهَدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيُّ مَوْلَاهُ.

رواهة أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

”ابو اسحاق سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن وہب کو یہ کہتے ہوئے سن: حضرت علی ﷺ نے لوگوں سے قسم لی جس پر پانچ (۵) یا چھ (۶) صحابہ نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تھا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا

.....  
كنز العمال، ١٣/٧٧، ١٦٨، الرقم: ٥٢٩٥١١، ٣٦٥١، والهیشمی  
في مجمع الزوائد، ٩/١٠٧ -

٤٣: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ٥/٣٦٦، وَ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ٢/٥٩٨، ٥٩٩، الرَّقْمُ: ٢١٠، وَ النَّسَائِيُّ فِي خَصَائِصِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ /٩٠، الرَّقْمُ: ٨٣، وَ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ، ٢/٥٠، الرَّقْمُ: ٤٧٩، وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السِّنْنِ الْكَبِيرِ، ٥/١٣١، وَابْنُ عَسَكِرٍ فِي تَارِيخِ دِمْشَقِ الْكَبِيرِ، ٤٥/٤٥، وَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الرِّيَاضِ النَّضْرَةِ، ٣/٢٧، الرَّقْمُ: ١٢٧، وَالْهِيَشِمِيُّ فِي مَجْمُوعِ الزَّوَائِدِ، ٩/٤١ -

علی مولا ہے۔“ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

٤٤/ ١٦٧ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةِ: قَالَ: وَقَالَ لِبْنِي عَمِّهِ: أَيُّكُمْ يُوَالِيُّنِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ قَالَ: وَعَلَيُّ مَعَهُ حَالِسٌ. فَأَبَوَا فَقَالَ عَلَيُّ: أَنَا أُوَالِيُّكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ قَالَ: أَنْتَ وَلَيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ قَالَ: فَتَرَكَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُوَالِيُّنِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ فَأَبَوَا قَالَ: فَقَالَ عَلَيُّ: أَنَا أُوَالِيُّكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . فَقَالَ: أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت عمرو بن ميمون رض حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹوں سے فرمایا: تم میں سے کون دنیا و آخرت میں میرے ساتھ دوستی کرے گا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رض اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے انکار کر دیا تو حضرت علی رض نے عرض کیا: میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا و آخرت میں دوستی کروں گا، اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رض سے آگے ان میں سے ایک اور آدمی کی طرف بڑھے اور فرمایا: تم میں سے دنیا و آخرت میں میرے ساتھ کون دوستی کرے گا؟ تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس پر پھر حضرت علی رض نے کہا: یا

٤: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَبْلَنَ فِي الْمُسْنَدِ، ٣٣٠/١، الرَّقم: ٣٠٦٢،  
وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكِ، ١٤٣/٣، الرَّقم: ٤٦٥٢، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ  
فِي السَّنَةِ، ٦٠٣/٢، وَالْهَبَشِيُّ فِي مَجْمُعِ الزَّوَادِ، ١١٩/٩ -

رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دوستی کروں گا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے علی! تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔“  
اس حدیث کو امام احمد، ابن ابی عاصم اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٤٥ / ١٦٨ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض، قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ ثَمَانَ عَشَرَةَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْرًا، وَهُوَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ لَمَّا أَخْذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رض، فَقَالَ: أَلْسُتْ وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيُّ مَوْلَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض: بَخْ بَخْ لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿۱﴾ .

رواہ الخطیب البغدادی وابن عساکر وابن کثیر، و قال: هذا حدیث منکر جدًّا، بل کذب، ..... كيف يكثون صيام يوم واحد يعدل ستين شهراً؟ هذا باطل.

”حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ جس نے اٹھارہ ذی الحجه کو روزہ رکھا اُس کے لیے ساٹھ (۲۰) مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا؛ اور یہ غدیر خم کا دن تھا جب حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی رض کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا علی مولا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رض نے فرمایا:

٤٥: أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٢٩٠ - ٢٨٩ / ٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٤٥ / ٢٣٣ - ٢٣٤، وابن كثير في البداية والنهاية، ٥ / ٢١٣ - ٢١٤ .

مبارک ہو! مبارک ہو! اے ابنِ ابی طالب! آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولاً ہھرے۔ (اس موقع پر) اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔“

اسے خطیب بغدادی، ابن عساکر اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے: یہ حدیث بہت زیادہ مسکنگر ہے، بلکہ منی بر افتراء ہے۔ ..... ایک دن کا روزہ کیسے ساٹھ ماہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ باطل ہے۔

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُورِقٍ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُعْطِي النَّاسَ، فَتَقَدَّمَتِ إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ؟ قُلْتُ: مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ؟ قَالَ: فَسَكَتْ. فَقَالَ: مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ؟ قُلْتُ: مَوْلَى عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ عَلِيٌّ؟ فَسَكَتْ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدُهُ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: وَأَنَا وَاللَّهُ مَوْلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عِدَّةٌ أَنَّهُمْ سَمِعُوا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهٌ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ كُمْ تُعْطِي أَمْثَالَهُ؟ قَالَ: مِائَةً أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَعْطِهِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَقَالَ أَبْنُ أَبِي دَاؤُدَ: سِتِّينَ دِينَارًا لِوَلَائِيَّةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: الْحَقُّ بِبَلْدِكَ فَسَيَأْتِيْكَ مِثْلُ مَا يَأْتِيْ نُظَرَاءَكَ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

٦: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ٣٦٤/٥، وابن عساکر في تاريخ دمشق الكبير، ٤٨، ٢٣٣/٦٩، ١٢٧/٦٩، وابن الاثير في أسد الغابة،

”حضرت یزید بن عمر بن مورق روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں شام میں تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رض لوگوں کو نواز رہے تھے۔ پس میں ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ میں نے کہا: قریش سے۔ انہوں نے پوچھا کہ قریش کی کس (شانخ) سے؟ میں نے کہا: بنی ہاشم سے۔ انہوں نے پوچھا کہ بنی ہاشم کے کس (خاندان) سے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ انہوں نے (پھر) پوچھا کہ بنی ہاشم کے کس (خاندان) سے؟ میں نے کہا: مولا علی (کے خاندان سے)۔ انہوں نے پوچھا کہ علی کون ہیں؟ میں خاموش رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا: ”بخدا! میں حضرت علی بن ابی طالب رض کا غلام ہوں۔“ اور پھر کہا کہ مجھے بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سننا: ”جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔“ پھر مراحم سے پوچھا کہ اس قبیلے کے لوگوں کو کتنا دے رہے ہو؟ تو اُس نے جواب دیا: سو (۱۰۰) یا دو سو (۲۰۰) درهم۔ اس پر انہوں نے فرمایا: ”حضرت علی بن ابی طالب رض کی قرابت کی وجہ سے انہیں پچاس (۵۰) دینار زیادہ دو، اور ابن ابی داؤد کی روایت کے مطابق ساٹھ (۲۰) دینار اضافی دینے کی ہدایت کی، اور (آن سے مخاطب ہو کر) فرمایا: آپ اپنے شہر تشریف لے جائیں، آپ کے پاس آپ کے قبیلہ کے لوگوں کے برابر حصہ پہنچ جائے گا۔“

اس حدیث کو امام ابوثیم نے روایت کیا ہے۔

٤٧٠ . عَنْ عَمَّرٍ وَذِي مُرْ وَزَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَالَا: حَطَبَ رَسُولُ

٤٧: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۱۹۲/۵، الرقم: ۵۰۵۹  
والنسائي في خصائص أمير المؤمنين علی بن ابی طالب رض/۱۰۰،  
١٠١، الرقم: ۹۶، وابن کثیر في البداية والنهاية، ۴/۱۷۰، والهندي  
في کنز العمال، ۶۰۹/۱۱، الرقم: ۳۲۹۴۶، والهشيمى في مجمع  
الزوائد، ۱۰۶، ۱۰۴/۹۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُؤْمِنُ بِيَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيَّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ، وَالِّي  
مَنْ وَالَّهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَأَعِنْ مَنْ أَعْنَاهُ.  
رواه الطبراني والنسائي.

”حضرت عمرو ذي مر اور زید بن ارم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے غدیر خم کے مقام پر خطاب فرمایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا مولا ہے، اے اللہ! جو اسے دوست رکھے تو اُسے دوست رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے تو اُس سے عداوت رکھ، اور جو اس کی نصرت کرے اُس کی تو نصرت فرمادور جو اس کی اعانت کرے تو اُس کی اعانت فرمائے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

٤٨/١٧١ . عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةِ: قَالَ: مَا بَالُ  
أَفْوَامِ يَنْتَقِصُونَ عَلَيْهِ، مَنْ يَنْتَقِصُ عَلَيْهِ فَقَدْ تَنَقَّصَنِي، وَمَنْ فَارَقَ عَلَيْهِ فَقَدْ  
فَارَقَنِي، إِنَّ عَلَيَّاً مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، خُلِقَ مِنْ طِينَتِي وَخُلِقْتُ مِنْ طِينَةِ  
إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ  
عَلِيهِمْ، ..... وَإِنَّهُ وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِالصُّحَّةِ أَلَا  
بَسَطَتْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ عَلَى الإِسْلَامِ جَدِيدًا؟ قَالَ: فَمَا فَارَقْتُهُ  
حَتَّى بَايَعُتهُ عَلَى الإِسْلَامِ. روہ الطبرانی.

”حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ان لوگوں کا کیا ہو گا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں! (جان لو) جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ پیشک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق ابراہیم کی مٹی سے، اور میں ابراہیم سے انضل ہوں۔ ہم میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سنتے اور جانتے والا ہے۔..... وہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے۔ (بریدہ بیان کرتے ہیں کہ) میں نے کہا: یا رسول اللہ! کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں تجدیدِ اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، (اور) میں آپ ﷺ سے جدا نہ ہوایہاں تک کہ میں نے اسلام پر (دوبارہ) بیعت کر لی۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٩ / ١٧٢ . عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُوصِي مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: مَنْ تَوَلَّهُ فَقَدْ تَوَلَّنِي وَمَنْ تَوَلَّنِي فَقَدْ تَوَلََّ اللَّهَ عَجَلَ، وَمَنْ أَحَبَهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ عَجَلَ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ عَجَلَ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ.

”حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر ایمان لا یا اور میری تصدیق کی اُسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں، جس نے

٤٩: أخرجه الديلمي في مسنـد الفردوس، ٤٢٩/١، الرقم: ١٧٥١، وابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ١٨٢، ١٨١:٤٥، والهنـدي في كنز العمال، ٦١١/١١، الرقم: ٣٢٩٥٨، والهـيمـي في مـجمـع الزـوـائد،

اُسے ولی جانا اُس نے مجھے ولی جانا اور جس نے مجھے ولی جانا اُس نے اللہ کو ولی جانا، اور جس نے علی ﷺ سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اُس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اُس نے اللہ سے بغض رکھا۔“

اس حدیث کو امام دیلی، متفقی ہندی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔



٥. فَصُلْ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ

أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي

﴿ حَبٌّ عَلٰى حَبٍّ مَصْطَفٌ عَلٰى بُغْضٍ وَبُغْضٌ مَصْطَفٌ ﴾

ہونے کا بیان

٥٠/١٧٣ . عن زر قال: قال علي: والذى فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي ﷺ إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم والنمسائي وابن حبان.

”حضرت زر (بن حبيش) ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا (اور اس سے انماج اور نباتات اگائے) اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی امی ﷺ کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔“

٥: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته، ١/٨٦، الرقم: ٧٨، وابن حبان في الصحيح، ١٥/٣٦٧، الرقم: ٦٩٢٤، والنمسائي في السنن الكبرى، ٤٧/٥، الرقم: ٨١٥٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٦٥، الرقم: ٣٢٠٦٤، وأبو يعلى في المسند، ١/٢٥٠، الرقم: ٢٩١، والبزار في المسند، ٢/١٨٢، الرقم: ٥٦٠، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٥٩٨، الرقم: ١٣٢٥ -

اس حدیث کو امام مسلم، سنائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

۵۱/۱۷۴ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَقَدْ عَاهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأَمِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُعْضُدُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ. قَالَ عَدَيُّ بْنُ ثَابَتٍ: أَنَا مِنَ الْقَوْنِ الَّذِينَ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے عہد فرمایا: مونمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور کوئی منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ عدی بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے کے لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے دعا فرمائی ہے۔“ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۵۲/۱۷۵ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ بِيُعْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

”حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ہم انصار لوگ، منافقین کو ان کے حضرت علیؑ کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

۵۱: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب ٦٤٣، الرقم: ٣٧٣٦ - ٥/٢

۵۲: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب، ٦٣٥، الرقم: ٣٧١٧، وأبو نعيم فى حلية الأولياء،

٥٣/١٧٦ . عن أم سلمة تقول: كان رسول الله ﷺ يقول: لا يحب علياً منافقاً ولا يغضنه مؤمناً. رواه الترمذى وأبو يعلى .  
وَقَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ .

”حضرت ام سلمه رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی منافق حضرت علیؑ سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن اس سے بغض نہیں رکھ سکتا۔“

اسے امام ترمذی اور ابو یعلیؑ نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

٥٤/١٧٧ . عن عبد الله الجذلي قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقالت لي: أيسْبُّ رَسُولَ اللَّهِ فِيْكُمْ؟ قُلْتُ: مَعَاذَ اللَّهِ، أُو سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ كَلِمَةُ نَحْوِهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ سَبَ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَنِي . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالحاكِمُ .

”حضرت عبد الله الجذليؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا: کیا تم لوگوں میں حضور نبی اکرم ﷺ کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا: اللہ کی پناہ یا اللہ کی ذات پاک ہے یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ

٥٣: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على، ٦٣٥/٥ ، الرقم: ٣٧١٧ ، وأبو يعلى فى المسند، ١٢/٣٦٢ ، الرقم:

٦٩٣١ ، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٣٧٥/٢٣ ، الرقم: ٨٨٦ -

٥٤: أخرجه النسائي فى السنن الكبرى، ١٣٣/٥ ، الرقم: ٨٤٧٦ ، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣٢٣/٦ ، الرقم: ٢٦٧٩١ ، والحاكم فى المستدرك، ٣/١٣٠ ، الرقم: ٤٦١٥ ، والهيثمي فى مجمع الزوائد، ٩/١٣٠ -

کہا تو انہوں نے کہا: میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔“

اس حدیث کو امام نسائی، احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

١٧٨ / ٥٥ . عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَبَّ عَلِيًّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَصَّبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا عَدُوَ اللَّهِ، آذِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيًّا لَا ذَيْنَهُ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

”حضرت ابن ابی ملیکہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ اہل شام سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاں حضرت علی ﷺ کو برا بھلا کہا، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو ایسا کہنے سے منع کیا اور فرمایا: اے اللہ کے دشمن تو نے حضور نبی اکرم ﷺ کو تکلیف دی ہے۔ (پھر یہ آیت پڑھی): ”بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان پر لعنت بھیجنتا ہے اور اللہ نے ان کے لئے ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔“ پھر فرمایا: اگر حضور نبی اکرم ﷺ (ظاہراً بھی) حیات ہوتے تو یقیناً (تو اس بات کے ذریعے) آپ ﷺ کی اذیت کا باعث بتاتا۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

١٧٩ / ٥٦ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْ

٥٥ : أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٢١/٣، ١٢٢، الرقم: ٤٦١٨ -

٥٦ : أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٣٨/٣، الرقم: ٤٦٤٠، والدیلمی في مسنده الفردوس، ٣٢٥/٥، الرقم: ٨٣٢٥ -

فَقَالَ: يَا عَلَيُّ، أَنْتَ سَيِّدُ فِي الدُّنْيَا سَيِّدُ فِي الْآخِرَةِ، حَبِيبُكَ حَبِيبِي، وَحَبِيبِي، حَبِيبُ اللَّهِ وَعَدُوُكَ عَدُوِّي، وَعَدُوِّي، عَدُوُ اللَّهِ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبغَضَكَ بَعْدِي. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے میری (یعنی علی کی) طرف دیکھ کر فرمایا: اے علی! تو دنیا و آخرت میں سردار ہے۔ تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے۔ اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور اس کیلئے بر بادی ہے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

٥٧/١٨٠. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: طُوبَى لِمَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَقَ فِيهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبغَضَكَ وَكَذَّبَ فِيهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو يَعْلَمَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيقٌ إِلَّا سَادِ.

”حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو حضرت علیؓ کے لئے فرماتے ہوئے تھا (اے علی) مبارکباد ہوا سے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے اور ہلاکت ہوا کے لئے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور تجھے جھٹلاتا ہے۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور ابو یعلی نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: یہ حدیث صحیح

٥٧: أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكِ، ١٤٥/٣، الرَّقم: ٤٦٥٧ وَأَبُو يَعْلَمُ فِي الْمُسْنَدِ، ١٧٩-١٧٨/٣، الرَّقم: ٦٠٢، وَالْطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجمِ الْأَوْسَطِ، ٣٣٧/٢، الرَّقم: ٢١٥٧ -

الإنساد ہے۔

۵۸/۱۸۱ . عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: مُحِبُّكَ مُحِبِّي، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضٌ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت سلمان فارسي ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔



---

۵۸: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۲۳۹/۶، الرقم: ۶۰۹۷، والبزار في المسند، ۴۸۸/۶، والديلمي في مسنن الفردوس، ۳۱۶/۵ -  
الرقم: ۸۳۰، والهيثمي في مجمع الروايد، ۱۳۲/۹

## ٦. فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهِ الْعِلْمِيَّةِ

﴿ حَضْرَتُ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ كَعْلَمِي مَقَامٍ وَمَرْتَبَةٍ كَا بَيَانِ﴾

٥٩/١٨٢ . عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا . رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَأَحْمَدُ .

”حضرت علیؑ“ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے۔“ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٦٠/١٨٣ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعْشَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَاضِيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُبَيِّنُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَبَيِّنَ لَكَ الْقَضَاءُ . قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًّا أَوْ مَا شَكَنْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ ماجَةَ وَالنَّسَائِيُّ .

٥٩: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب مناقب علیؑ، ٦٣٧/٥، الرقم: ٣٧٢٣، وأحمد بن حنبل فی فضائل الصحابة، ٦٣٤/٢، الرقم: ١٠٨١، وأبو نعيم فی حلية الأولياء، ٦٤/١-

٦٠: أخرجه أبو داود فی السنن، كتاب الأقضیة، باب كيف القضاة، ٣٥٨٢، الرقم: ٢٣١٠، وابن ماجه فی السنن، كتاب الأحكام، باب ذکر القضاة، ٧٧٤/٢، الرقم: ٨٤١٧، والنمسائی فی السنن الكبرى، ١١٦/٥، الرقم: ٢٣٦، وأحمد بن حنبل فی المسند، ٨٣/١، الرقم: ٨٦/١، والبيهقي فی السنن الكبرى، ١٠،-

”حضرت علیؑ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے میں کی طرف قاضی بنا کر بھیجا۔ میں عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ! آپ مجھے بھیج رہے ہیں جبکہ میں نو عمر ہوں اور فیصلہ کرنے کا بھی مجھے علم نہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے دل کو ہدایت عطا کر دے گا اور تمہاری زبان اس پر قائم کر دے گا۔ جب بھی فریقین تمہارے سامنے بیٹھ جائیں تو جلدی سے فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرا کی بات نہ سن لو جیسے تم نے پہلے کی سنی تھی۔ یہ طریقہ کا تمہارے لیے فیصلہ کو واضح کر دے گا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں بھی بھی فیصلہ کرنے میں شک میں نہیں پڑا۔“

اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اورنسانی نے روایت کیا ہے۔

٦١/١٨٤ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيْهِ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ .  
وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِلَّا سَنَادٍ .

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

٦٢/١٨٥ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَسَحَّدُ أَنَّ أَفْضَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ

٦١: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٣٧/٣، الرقم: ٤٦٣٧، والديلمي في مسنده الفردوس، ٤٤/١، الرقم: ١٠٦ -

٦٢: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٤٥/٣، الرقم: ٤٦٥٦، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٣٣٨/٢، والعسقلاني في فتح الباري، ١٦٧/٨ -

ابنُ أَبِي طَالِبٍ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ .

”حضرت ابو اسحاق رض بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رض فرمایا کرتے تھے اہل مدینہ میں سے سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا علی ابن ابی طالب رض ہے۔“  
اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٦٣/١٨٦      عَنْ عَلَيٌّ قَالَ: وَاللَّهِ، مَا نَزَّلْتُ آيَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُ فِيمَا نَزَّلْتُ وَأَئِنَّ نَزَّلْتُ وَعَلَى مَنْ نَزَّلْتُ، إِنَّ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْبًا عَقُولًا وَلِسَانًا طَلْفًا . رَوَاهُ أَبُو نُعِيمٍ وَابْنُ سَعْدٍ .

”حضرت علی رض نے فرمایا: میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے، کس جگہ اور کس پر نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ سمجھ وala دل اور فتح زبان عطا فرمائی ہے۔“  
اسے امام ابو نعیم اور ابن سعد نے روایت کیا ہے۔

## ٧. فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ

﴿ حَضْرَتْ عَلَيٰ كِي جَامِعِ صِفَاتِهِ اُورِ مَنَاقِبِهِ کَا بِیان﴾

٦٤/١٨٧ . عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كَانَ لِعَلَيٰ اسْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ، وَإِنْ كَانَ لِيْفَرُحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا. فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرُنَا عَنْ قِصَّتِهِ. لِمَ سُمِّيَ أَبَا تُرَابِ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ بَيْتِي وَبَيْتِهِ شَيْءٌ. فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي الْمُسْجِدِ رَأْقِدٌ. فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَآؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: قُمْ أَبَا التُّرَابِ. قُمْ أَبَا التُّرَابِ. مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

”حضرت ابو حازم حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت

٦٤: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب المساجد، باب نوم الرجال فى المسجد، ١٦٩/١، الرقم: ٤٣٠، وفي كتاب الاستئذان، باب القائلة فى المسجد، ٢٣١٦/٥، الرقم: ٥٩٢٤، ومسلم فى الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب، ١٨٧٤/٤، الرقم: ٢٤٠٩، والحاكم فى المستدرك، ٢١١/١، والبيهقي فى السنن الكبرى، ٢/٤٦، الرقم: ٤١٣٧۔

علی ﷺ کو ابوتراب سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہ تھا، جب انہیں ابوتراب کے نام سے بلا یا جاتا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ راوی نے ان سے کہا: ہمیں وہ واقعہ سنائیے کہ آپ ﷺ کا نام ابوتراب کیسے کھا گیا؟ انہوں نے فرمایا: ایک دن حضور نبی اکرم ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی ﷺ گھر میں نہیں تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا پچازاد کہاں ہے؟ عرض کیا: میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی جس پر وہ خنا ہو کر باہر چلے گئے اور گھر پر قیلولہ بھی نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے کسی شخص سے فرمایا: جاؤ تلاش کرو وہ کہاں ہیں؟ اس شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ مسجد میں سور ہے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ حضرت علی ﷺ کے پاس تشریف لے گئے، آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں جبکہ ان کی چادر ان کے پہلو سے نیچے گرگئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی، حضور نبی اکرم ﷺ اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے: اے ابوتراب (مٹی والے)! اٹھو، اے ابوتراب اٹھو۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔

٦٥/١٨٨      عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيًّا قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْرٍ، وَكَانَ بِهِ رَمَدُ، فَقَالَ: إِنَّا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ

٦: آخرجه البخاری فی الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب على بن أبي طالب، ١٣٥٧/٣، الرقم: ٣٤٩٩، وفي كتاب المغازي، باب غزوة خير، ١٥٤٢/٤، الرقم: ٣٩٧٢، وفي كتاب الجهاد والسير، باب ما قبل في لواء النبي ﷺ، ١٠٨٦/٣، الرقم: ٢٨١٢، ومسلم فی الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب ﷺ، ١٨٧٢/٤، الرقم: ٢٤٠٧، والبیهقی فی السنن الكبرى، ٣٦٢، الرقم: ١٢٨٣٧ -

عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ الْلَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَّمَّلَ اللَّهُ فِي  
صَبَابِحَهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ أَوْ لَيَاخُذَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا  
رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَإِذَا  
نَحْنُ بِعَلِيٍّ، وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ، فَاعْطِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

”حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ حضرت علی آشوب چشم کی تکلیف کے باعث معرکہ خیر کے لیے (بوقت روائی) مصطفوی لشکر میں شامل نہ ہو سکے۔ پس انہوں نے سوچا کہ میں حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے پیچھے رہ گیا ہوں، پھر حضرت علی لکھے اور حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے جا ملے۔ جب وہ شب آئی جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: کل میں جہنڈا ایسے شخص کو دوں گا یا کل جہنڈا وہ شخص پکڑے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں یا یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں خیر کی فتح سے نوازے گا۔ پھر اچانکہ ہم نے حضرت علی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو دیکھا، حالانکہ ہمیں ان کے آنے کی توقع نہ تھی۔ پس حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے جہنڈا انہیں عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٦٦/١٨٩ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِسَدِ الْأَبُوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

٦: آخر جه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب، ٦٤١/٥، الرقم: ٣٧٣٢، والهيثمي في مجمع الزوائد،

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔“ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

٦٧/١٩٠ . عَنْ عَمْرِ وْ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةِ:  
قَالَ وَسَدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلَىٰ فَقَالَ: فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ جُنْبًا  
وَهُوَ طَرِيقُهُ لِيُسَلِّمَ لَهُ طَرِيقُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

”حضرت عمرو بن ميمون ﷺ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیئے سوائے حضرت علیؓ کے دروازے کے اور آپ ﷺ نے فرمایا: علیٰ حالتِ جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہی اس کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے گھر کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔“ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٦٨/١٩١ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللَّهِ خَيْرُ النَّاسِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَلَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لَأَنْ تَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعْمٍ: زَوْجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ، وَوَلَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٦٧: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/٣٣٠، الرقم: ٣٠٦٢ -

٦٨: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٦، الرقم: ٤٧٩٧، وفي  
فضائل الصحابة، ٢/٥٦٧، الرقم: ٩٥٥، والهيثمي في مجمع  
الزوائد، ٩/١٢٠ -

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آپ ﷺ تمام لوگوں سے افضل ہیں اور آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو مکر صدیق ؓ اور پھر حضرت عمر ؓ اور یہ کہ حضرت علی ؓ تو تین خصلتیں عطا کی گئیں ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے سرخ قیمتی اموٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ (اور وہ تین خصلتیں یہ ہیں) کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ان کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کیا جس سے ان کی اولاد ہوئی اور دوسری یہ کہ حضور نبی اکرم ﷺ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروادیے گران کا دروازہ مسجد میں رہا اور تیسرا یہ کہ ان کو حضور نبی اکرم ﷺ نے خیر کے دن جھنڈا عطا فرمایا۔“

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

۶۹/۱۹۲ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْيٍ قَالَ: حَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ لِتُخْضِبَنَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، قَالَ: قَالَ النَّاسُ: فَأَعْلَمُنَا مَنْ هُوَ؟ وَاللَّهُ لَنْبِيُّنَ عِتْرَتَهُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ عَيْرُ قَاتِلِيٍّ، قَالُوا: إِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ اسْتَخْلِفُ إِذَا، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَكِلُّكُمْ إِلَى مَا وَكَلَّكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَزَارُ.

”حضرت عبد اللہ بن سعیج بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ؓ نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چھاڑا اور مخلوقات کو زندگی عطا فرمائی! یہ داڑھی ضرور بالضرور خون سے خصاب کی جائے گی (یعنی میری داڑھی میرے سر کے

۶: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ۱۵۶/۱، الرَّقم: ۱۳۴۰، وَالبَزَارُ فِي الْمُسْنَدِ، ۹۲/۳، الرَّقم: ۸۷۱، وَالْمَقْدِسِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ، ۲۱۳/۲، الرَّقم: ۵۹۵ -

خون سے سرخ ہو جائے گی) راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا: پس آپ تمیں بتا دیں وہ کون ہے؟ ہم اس کی نسل مٹا دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دینا ہوں کہ میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اگر آپ یہ جانتے ہیں تو کسی کو غلیفہ مقرر کر دیں، آپ نے فرمایا: نہیں لیکن میں تمہیں وہ چیز سوچتا ہوں جو حضور نبی اکرم ﷺ نے تمہیں سونپی (یعنی باہم مشاورت سے خلیفہ مقرر کرو)۔“

اس حدیث کو امام احمد اور بزار نے روایت کیا ہے۔

٧٠ / ١٩٣ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ طَوِيلَةِ: وَجَدْثُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: أَمَا تُرْضِينَ أَنْ زَوْجُكَ أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبرَانِيُّ .

”حضرت عبد اللہ بن عوف ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ برد بار شخص سے کیا ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٧١ / ١٩٤ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَدْعُوا لِي سَيِّدَ الْعَرَبِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلْسْتَ سَيِّدَ الْعَرَبِ؟ قَالَ:

٧٠: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢٦/٥، والطبراني في المجمع الكبير، ٢٢٩/٢٠، والهندي في كنز العمال، الرقم: ٣٢٩٢٤ - ٣٢٩٢٥، والسيوطى في جمع الجواب، الرقم: ٤٢٧٣، ٤٢٧٤ -

٧١: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٣٤/٣، الرقم: ٤٦٢٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٦٣/١، والهيثمى في مجمع الزوائد، ١٣١/٩ -

أَنَّ سَيِّدَ وُلُودَ آدَمَ وَعَلِيُّ سَيِّدُ الْعَرَبِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے پاس سردار عرب کو بلاو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔“ اس حدیث کو امام حاکم اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

٧٢/١٩٥. عَنْ هُبَيْرَةَ خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ قَبْلَهُ فَقَالَ: لَقَدْ فَارَقْكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ، وَلَا يَدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْثُثُ بِالرَّأْيِ، جِبْرِيلٌ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلٌ عَنْ شِمَالِهِ، لَا يَنْصُرُ فَحْتَىٰ يُفْتَحَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ہبیرہ ﷺ سے روایت ہے کہ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: گزشتہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی ہے جن سے نہ تو گذشتہ لوگ علم میں سبقت لے سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مرتبہ علمی کو پاسکیں گے، حضور نبی اکرم ﷺ ان کو اپنا حمدنا دے کر بھیجتے تھے اور جرا تسلیم آپ کی دائیں طرف اور میکائیل آپ کی باکیں طرف ہوتے تھے اور آپ ﷺ کو فتح عطا ہونے تک وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔“ اس حدیث کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٧٣/١٩٦. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّى عَلَيًّا بِأَبِي

٧٢: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٩٩/١، الرقم: ١٧١٩، و  
الطبراني في المعجم الأوسط، ٣٣٦/٢، الرقم: ٢١٥٥ -

٧٣: أخرجه البزار في المسند، ٤/٢٤٨، الرقم: ١٤١٧، والهيثمي في  
مجمع الزوائد، ٩/١٠١ -

تُرَابٍ، فَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ كُنَاءِ إِلَيْهِ رَوَاهُ الْبَزَارُ.

١. ”حضرت عمار بن ياسر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کو ابوتراب کی کنیت سے نوازا۔ پس یہ کنیت انہیں سب کنیتوں سے زیادہ محبوب تھی۔“ اسے امام بزار نے روایت کیا ہے۔

٧٤/١٩٧. عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلَيٍّ لَا يَفْتَرِقُ إِنْ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحُوضَ.  
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی اور قرآن کا چوپی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر (اکھٹے) آئیں گے۔“  
اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٧٥/١٩٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْنَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ.  
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

٧٤: آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ١٣٥/٥، الرقم: ٤٨٨٠، وفي

المعجم الصغير، ٢٥٥/١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٣٤/٩ -

٧٥: آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢٦٣/٤، الرقم: ١٦٥١ ،

والديلمي في مسنده الفردوس، ٣٠٣/٤، الرقم: ٦٨٨٨ ، والهيثمي في

مجمع الزوائد، ١٠٠/٩ -

”حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سن: لوگ جدا جد انساب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٧٦/۱۹۹. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: السَّبِيقُ شَاهِدٌ: الْسَّابِقُ إِلَى مُوسَىٰ، يُوْشَعُ بْنُ نُونٍ وَالسَّابِقُ إِلَى عِيسَىٰ، صَاحِبُ يَاسِينٍ، وَالسَّابِقُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: سبقت لے جانے والے تین ہیں۔ حضرت موسیٰ ﷺ کی طرف (ان پر ایمان لا کر) سبقت لے جانے والے حضرت یوشع بن نون ہیں، حضرت عیسیٰ ﷺ کی طرف سبقت لیجانے والے صاحب یاسین ہیں اور حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف سبقت لیجانے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٧٧/۲۰۰. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَمْ سَلَمَةَ: هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَحْمُهُ لَحْمِيٌّ، وَدَمُهُ دَمِيٌّ، فَهُوَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضي الله عنها سے فرمایا: یہ علی بن ابی طالب ہے اس کا گوشت

٧٦: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٩٣/١١، الرقم: ١١٥٢  
والهيثمي في مجمع الروايد، ٩/١٠٢ -

٧٧: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٨/١٢، الرقم: ١٢٣٤١  
والهيثمي في مجمع الروايد، ٩/١١١ -

میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے اور یہ میرے لئے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت ہارون صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“  
اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

٧٨/٢٠١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ ثَلَاثَةً أَشْيَاءً لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَقَائِدُ الْفُرَّاجِ الْمَحْجُلِينَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن عکیم رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے شبِ معراج وحی کے ذریعے مجھے علی کی تین صفات کی خبر دی یہ کہ وہ تمام مؤمنین کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں اور (قیامت کے روز) نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

٧٩/٢٠٢. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَّلَتْ فِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا رض قَالَ: مَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا﴾ حضرت علی رض کی شان میں اتری ہے اور فرمایا: اس سے مراد مؤمنین کے دلوں میں (حضرت

٧٨: آخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ٢/٨٨۔

٧٩: آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥/٣٤٨، الرقم: ٥٥١٤، والهیشمي في مجمع الزوائد، ٩/١٢٥۔

علیٰ ﷺ کی محبت ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۸۰۳ / . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رض، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أُرْوِجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رض روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۸۰۴ / . عَنْ أَبِي الطُّفْلِيِّ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلِيُّ رض نَائِمٌ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَقَّ أَسْمَائِكَ أَبُو تُرَابٍ، أَنْتَ أَبُو تُرَابٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ابو طفیل رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی رض مٹی پر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو سب ناموں میں سے ابو تراب کا زیادہ حق دار ہے تو ابو تراب ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۸۰۵ / . عَنْ جَابِرٍ رض أَنَّ عَلِيًّا رض حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْرِ حَتَّىٰ

۸۰: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۱۵۶/۱۰، الرقم: ۱۰۳۰۵، والهيثمي في مجمع الزوائد، ۴/۹، ۲۰، والمناوي في فيض القدير، ۲۱۵/۲، والحسيني في البيان والتعريف، ۱/۱۷۴ -

۸۱: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ۱/۲۳۷، الرقم: ۷۷۵، والهيثمي في مجمع الزوائد، ۹/۱۰۱ -

۸۲: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ۶/۳۷۴، الرقم: ۳۲۱۳۹، والعسقلاني في فتح الباري، ۷/۴۷۸، والعجلوني في كشف ←

صَعِدَ الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوهَا وَأَنَّهُ جُرِّبَ فَلَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا.

رواه ابن أبي شيبة.

”حضرت جابر رض بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیر کے روز حضرت علی رض نے قلعہ خیر کا دروازہ اٹھا لیا یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا اور یہ آزمودہ بات ہے کہ اس دروازے کو چالیس آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔“  
اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٨٣/٢٠٦ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةً。 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ۔

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔“ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٨٤/٢٠٧ . عَنْ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ

الخلفاء، ١/٤٣٨، الرقم: ١١٦٨، و قال العجلوني: رواه الحاكم  
و البهقي عن حابر، والطبرى فى تاريخ الأمم والملوك، ١٣٧/٢  
وابن هشام فى السيرة النبوية، ٤/٣٠٦۔

٨٣: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/١٥٢، الرقم: ٤٦٨٢، والطبراني  
في المعجم الكبير، ١٠/٧٦، الرقم: ٦٨٦٥ عن معاذ بن جبل، وأبو نعيم في  
الفردوس، ٤/٢٩٤، الرقم: ٦٨٦٥ عن معاذ بن جبل، وأبو نعيم في  
حلية الأولياء، ٥/٥٨، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/١١٩، وقال  
الهيثمي: وثقة ابن حبان وقال: مستقيم الحديث۔

٨٤: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٨/١٠٩، الرقم: ٢٠٧  
والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/١٠٩۔

يَحْدُثُ النَّظَرُ إِلَى عَلَيٰ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّظَرُ إِلَى عَلَيٰ عِبَادَةً. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت طلیق بن محمد ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمران بن حسین ﷺ کو دیکھا کہ وہ حضرت علی ﷺ کو ٹکنی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنائے کہ حضرت علی ﷺ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔“  
اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۸۵/۲۰۸. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذُكْرُ عَلَيٰ عِبَادَةً. رَوَاهُ الدَّلِيلَمِيُّ.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔“ اس حدیث کو امام دلیلی نے روایت کیا ہے۔

۸۶/۲۰۹. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبَابَكْرَ يُكْثِرُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ عَلَيٰ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتَ، أَرَاكَ تُكْثِرُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ عَلَيٰ فَقَالَ: يَا بُنْيَةُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلَيٰ عِبَادَةً.  
رواه ابن عساکر۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوکبر

۸۵: آخرجه الدلیلمی فی مسنند الفردوس، ۲/۴، ۲۴، الرقم: ۱۳۵۱۔

۸۶: آخرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق الكبير، ۴۲/۵۵، والزمخشري فی مختصر کتاب الموافقة/ ۱ -

کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علیؑ کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ پس میں نے آپ سے پوچھا: اے ابا جان! کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے حضرت علیؑ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جواب دیا: اے میری بیٹی! میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنा ہے کہ علیؑ کے چہرے کو تکتا بھی عبادت ہے۔“ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے۔

٨٧/٢١. عَنْ عَامِرٍ قَالَ: غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَكَانَ عَلَيُّ يَغْسِلُهُ وَيَقُولُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي، طَبَّتْ مَيْنَا وَحَيَاً. رَوَاهُ أَبْنُ سَعْدٍ.

”حضرت عامرؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زیدؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ کو غسل دیا جب حضرت علیؑ آپ ﷺ کو غسل دے رہے تھے تو کہتے تھے: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں! آپ وصال فرمایا اور زندہ رہ کر دونوں حالتوں میں پاکیزہ تھے۔“

اس حدیث کو امام ابن سعد نے بیان کیا ہے۔

٨٨/٢١١. عَنْ أَنَسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، إِذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: هَذَا جِبْرِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّلَ زَوْجَكَ فَاطِمَةَ، وَأَشْهَدَ عَلَى تَزْوِيجِكَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَأَوْحَى إِلَى شَجَرَةِ طُوبَى أَنِ اُنْثِرِي عَلَيْهِمُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ، فَنَثَرَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرُّ

٨٧: آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ٢٧٧/٢

٨٨: آخرجه محب الدين الطبرى في الرياض النصرة في مناقب العشرة،

١٤٦/٣، وفي ذخائر العقبى في مناقب ذوى القرى / ٧٢، ٧٣ -

وَالْيَاقُوتُ، فَابْتَدَرَتُ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعَيْنُ يَلْتَقِطُنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرِّ  
وَالْيَاقُوتِ، فَهُمْ يَتَهَادُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ。 رَوَاهُ مُحَبُّ الطَّبْرِيُّ.

”حضرت انس رض سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما  
تھے کہ حضرت علی رض سے فرمایا: یہ جریل امین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجھے خردے رہے ہیں کہ اللہ  
تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے۔ اور تمہارے نکاح پر (ملاء اعلیٰ میں) چالیس  
ہزار فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شرکیت کیا، اور شمحر ہائے طوبی سے فرمایا: ان پر  
موتی اور یاقوت پنجاہر کرو، پھر لکش آنکھوں والی حوریں اُن موتیوں اور یاقوتوں سے تھال  
بھرنے لگیں۔ جنہیں (تقرب نکاح میں شرکت کرنے والے) فرشتے قیامت تک ایک  
دوسرے کو بطور تھائف دیتے رہیں گے۔“ اس کو محب الطبری نے روایت کیا ہے۔



الْبَابُ الرَّابِعُ:

مَنَاقِبُ الْحَسَنَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَام

﴿حسين کریمین علیہما السلام کے مناقب﴾



۱. فَصُلُّ فِي تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمَا وَأَذَانِهِ

فِي أَذْنِهِمَا وَعَقِيقَتِهِ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَام

حضرور ﷺ کا حسین کریمین علیہما السلام کا نام رکھنے، ان کے

کانوں میں اذان دینے اور ان کی طرف سے عقیقہ کرنے کا بیان

۱/۲۱۲ . عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْنَ فِي أَذْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ .

رواء الترمذی وابو داؤد واحمد۔ وقال الترمذی: هذا حديث حسن

صحیح.

”حضرت ابو رافع رض سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی ولادت ہونے پر ان کے کانوں میں نماز والی اذان دی۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب الأضاحى، باب الأذان فى أذن المولود، ۴، الرقم: ۹۷/۴، وأبو داود فى السنن، كتاب الأدب، باب فى الصبي يولد فيه ذن فى أذنه، ۴/۳۲۸، الرقم: ۵۱۰۵، وأحمد بن حنبل فى المسند، ۶/۳۹۱.

٢/٢١٣ . عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حسین کریمین رضي الله عنهما کی طرف سے بطور عقیقہ میں ایک ایک دنبہ ذبح کیا۔“  
اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔

٣/٢١٤ . عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشِينِ كَبْشِينِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حسین کریمین رضي الله عنهما کی طرف سے عقیقہ میں دو دنبے ذبح کئے۔“  
اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

٤/٢١٥ . عَنْ عَلَيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ حَسَنٌ سَمَّاهُ حَمْزَةُ، فَلَمَّا وُلِدَ حُسَيْنٌ سَمَّاهُ بِاسْمِ عَمِّهِ جَعْفَرًا قَالَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: ٢: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصحايا، باب في العقيقة، ٣٠٢/٩، الرقم: ٢٨٤١، والبيهقي في السنن الكبير، ٤٥٤٥ - ١١٨٥٦، والطبراني في المعجم الكبير، ٣١٦/١١، الرقم: ٣١٦/١١٨٥٦.

: ٣: أخرجه النساءي في السنن، كتاب العقيقة، باب كم يعق عن الجارية، ٧٦/٣، الرقم: ٤٢١٩، وفي السنن الكبير، ٤٤٥، الرقم: ٤٤٥ - ١٦٥٧.

: ٤: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/١٥٩، وأبو يعلى في المسند، ٤/٤٩٨، والحاكم في المستدرك، ٤/٣٠٨، الرقم: ٣٨٤:١.

وَقَالَ: إِنِّي أُمْرُتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هَذِينَ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الِإِسْنَادِ.

”حضرت علیؑ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام ان کے پچھا کے نام پر جعفر رکھا۔ (حضرت علیؑ فرماتے ہیں) مجھے حضور نبی اکرم ﷺ نے بلا کر فرمایا: مجھے ان کے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (حضرت علیؑ فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پس آپ ﷺ نے ان کے نام حسن و حسین رکھے۔“

اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

٥/٢١٦ . عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَقَالَ: بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وَلَدَتِ الْحُسَيْنَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا قَالَ: بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ، ثُمَّ لَمَّا وَلَدَتِ الشَّالِكَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرُونِي

٥: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١١٨/١، الرقم: ٩٣٥، وابن حبان في الصحيح، ٤٠/١٥، الرقم: ٦٩٨٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٩٦/٣، الرقم: ٢٧٧٣، ٢٧٧٤، والحاكم في المستدرك، ٣/١٨٠، الرقم: ٤٧٧٣ -

ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرُبًا قَالَ: بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا سَمَّيْتُهُمْ بِاسْمِ وَلَدِ هَارُونَ شَبِيرٍ وَشَبِيرٍ وَمُشَبِّرٍ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

”حضرت عليؑ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ وہ حسن ہے پھر جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ وہ حسین ہے پھر جب تیرا بیٹا پیدا ہوا تو حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ پھر فرمایا: میں نے ان کے نام ہارون (عليه السلام) کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشیر کے نام پر رکھے ہیں۔“

اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الْإِسْنَادُ ہے۔

٦/٢١٧ . عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتِ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ بْنَ عَلَيٍّ جَاءَتِ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّاهُ حَسَنًا فَلَمَّا وَلَدَتِ حُسَيْنًا جَاءَتِ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا تَعْنِي حُسَيْنًا فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ فَسَمَّاهُ حُسَيْنًا . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ .

”حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حسن بن علی علیہما السلام کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا گئیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا اور جب حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر عرض کیا: یا رسول یہ (حسین) اس (حسن) سے زیادہ خوبصورت ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام سے اخذ کر کے اُس کا نام حسین رکھا۔“  
اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔



## ٢. فَصْلٌ فِي أَنَّهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

### وَخَيْرُ النَّاسِ نَسَبًا

﴿حسين کریمین علیہما السلام کا اہل بیت میں سے ہونے اور نسب﴾

کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بہتر ہونے کا بیان﴾

٧/٢١٨. عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرَمِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسِبْهُ بَقْتَلَ الدُّبَابِ، فَقَالَ: أَهُلُّ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الدُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُمَا رَيْحَانَتَنِي مِنَ الدُّنْيَا. رَوَاهُ أُبَيْ بَخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.

”حضرت ابن البوئم ﷺ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں احرام باندھنے والے نے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما نے فرمایا: اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں حالانکہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (امام حسین ﷺ) کو شہید کر دیا تھا اور حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: وہ دونوں

٧: آخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين ١٣٧١/٣، الرقم: ٣٥٤٣، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٨٥/٢، الرقم: ٥٥٦٨، وابن حبان فى الصحيح، ٤٢٥/١٥، الرقم: ٦٩٦٩، والطیالسى فى المسند، ٢٦٠/١، الرقم:

(حسن و حسین علیہما السلام) ہی تو میرے گلشن دُنیا کے دو پھول ہیں۔“

اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٨/٢١٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ دَمِ الْبَعْوضِ يُصِيبُ الشُّوْبَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: انْظُرُوهُ إِلَى هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعْوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَيِّ مِنَ الدُّنْيَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

”حضرت عبد الرحمن بن أبي نعم رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک عراقی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما سے پوچھا کہ کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما نے فرمایا: اس کی طرف دیکھو، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے حالانکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے (امام حسین) کو شہید کیا ہے اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن: حسن اور حسین ہی تو میرے گلشن دُنیا کے دو پھول ہیں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

٨: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، ٦٥٧/٥، الرقم: ٣٧٧٠، والنسائى فى السنن الكبرى، ٥٠/٥، الرقم: ٨٥٣٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٩٣/٢، الرقم:

٩/٢٢ . عَنْ صَفِيَّةِ بْنَتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاءً . وَعَلَيْهِ مُرْطُ مُرَحْلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ . فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ ، فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ ، فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ، فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلَيٍّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

”حضرت صفية بنت شيبة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے درآں حالیکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اور ٹھیک ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاوں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی علیہما السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا پھر حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے، پھر حضرت فاطمہ سلام الله عليها آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی دور کر دے اور تم کو کمال درجہ طہارت سے نواز دے۔“

اس حدیث کو امام مسلم اور ابن ابی شيبة نے روایت کیا ہے۔

: ٩ آخرجه مسلم فی الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ١٨٨٣/٤، الرقم: ٢٤٤، وابن أبی شيبة فی المصنف، ٣٧٠/٦، الرقم: ٣٦١٠٢، والحاکم فی المستدرک، ٤٧٠٥، الرقم: ١٥٩ -

١٠/٢٢١ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْاً وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

”حضرت سعد بن أبي وقاص رض بيان کرتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ: ”آپ فرمادیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلا تے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاو۔“ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین علیہم السلام کو بلایا، پھر فرمایا: یا اللہ! یہ میرے اہل (بیت) ہیں۔“

اس حدیث کو امام مسلم، امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔

١١/٢٢٢ . عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظْهِرَ كُمْ تَطْهِيرًا﴾ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَ أَفَاطِمَةَ

١٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، ٤/١٨٧١، الرقم: ٢٤٠، والترمذی في السنن، كتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة آل عمران، ٥/٢٢٥، الرقم: ٢٩٩٩ وأحمد بن حنبل في المسند، ١/١٨٥، الرقم: ١٦٠٨ والحاکم في المستدرک، ٣/٦٣، الرقم: ٤٧١٩۔

١١: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، ٥/٣٥١، الرقم: ٣٢٠٥، وفي كتاب المناقب، باب فضل فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٥/٦٩٩، الرقم: ٣٨٧١۔

وَحَسَنَا وَحُسْيِنًا فَجَلَّهُم بِكَسَاءٍ وَعَلَيٍّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّهُ بِكَسَاءٍ ثُمَّ  
قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَدْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا.  
قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعْهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ  
عَلَى خَيْرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”حضور نبی اکرم ﷺ کے پروردہ حضرت عمر بن ابی سلمہؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور نبی اکرم ﷺ پر یہ آیت: ”اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح) کی آلو دگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔“ نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے سیدہ فاطمہ اور حسین بن کریمین سلام اللہ علیہم کو بلا یا اور انہیں ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علیؑ آپ ﷺ کے پیچھے تھے، آپ ﷺ نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی آلو دگی دور فرم اور انہیں خوب پاک و صاف کر دے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

١٢/٢٢٣ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فَاطِمَةَ وَحَسَنَةِ وَحُسْيِنَةِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”ام المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو جمع فرمائیں کہاں کوئی چادر میں لے لیا اور فرمایا:

١٢: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٥٣/٣، الرقم: ٢٦٦٣ ،

٢٣/٣٠٨، الرقم: ٦٩٦، وأبو المحاسن في مختصر المختصر،

اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۱۳/۲۲۴ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ بَنِي إِنْثَىٰ فِي إِنْثَىٰ فَإِنَّ عُصْبَتَهُمْ لَا يَبِهُمْ مَا خَلَّ وَلَدٌ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عُصْبَتُهُمْ، وَأَنَا أَبُوهُمْ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے مساوئے فاطمہ کی اولاد کے، کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔“  
اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۱۴/۲۲۵ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا خَلَّ سَبَبِي وَنَسَبِي وَكُلُّ وَلَدٍ أَبٍ فَإِنَّ عُصْبَتَهُمْ لَا يَبِهُمْ مَا خَلَّ وَلَدٌ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعُصْبَتُهُمْ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَالْطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

”حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے مساوئے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ

۱۳: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۴/۳، الرقم: ۲۶۳۱ -

۱۴: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ۶/۱۶۴، الرقم: ۱۰۳۵۴

والطبراني في المعجم الأوسط، ۶/۳۵۷، الرقم: ۶۶۰۹، وفي

المعجم الكبير، ۳/۴، الرقم: ۲۶۳۳، والبيهقي في السنن الكبير،

- ۷/۶۴، الرقم: ۱۳۱۷۲

بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔“

اس حدیث کو امام عبدالرازاق، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

١٥/٢٢٦ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِلَّا أَخْبُرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ جَدًا وَجَدَّةً؟ إِلَّا أَخْبُرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ عَمًّا وَعُمَّةً؟ إِلَّا أَخْبُرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ خَالًا وَخَالَةً؟ إِلَّا أَخْبُرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ أَبًا وَأُمًا؟ هُمَا الْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ، جَدُّهُمَا رَسُولُ اللهِ وَجَدَّتُهُمَا حَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلَدٍ، وَأَمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعُمُّهُمَا جَعْفُرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ وَخَالُهُمَا الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ وَخَالَاتُهُمَا زَيْنَبُ وَرُوفِيَّةُ وَأُمُّ كَلْثُومَ بِنَاتُ رَسُولِ اللهِ، جَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ عُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَعَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ .

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اے لوگو! کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو (اپنے) نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے نہ بتاؤں جو (اپنے) پچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ

١٥: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٦٦/٣، الرقم: ٢٦٨٢، وفي المعجم الأوسط، ٢٩٨:٦، الرقم: ٧٤٦٢ -

باتاؤں جو (اپنے) ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو (اپنے) ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں، ان کے نانا اللہ کے رسول، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلہ، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے والد علی بن ابی طالب، ان کے پچھا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ اور ان کی خالہ رسول اللہ کی پیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ ان کے نانا، والد، والدہ، پچھا، پھوپھی، ماموں اور خالہ (سب) جنت میں ہوں گے اور وہ دونوں (حسین کریمین) بھی جنت میں ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے میں روایت کیا ہے۔

١٦/٢٢٧ . عَنْ أَبِي إِيُوبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ: وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رِيَاحَاتِي مِنَ الدُّنْيَا أَشْمَهُمَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ایوب النصاری رض بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو (دیکھا کہ) حسن و حسین علیہما السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان سے محبت کیوں نہ کروں۔ حالانکہ میرے گلشن دُنیا کے بھی تو دو پھول ہیں جن کی مہک کو سوگھتا رہتا ہوں (اور انہی پھولوں کی خوبیوں سے کیف و سرور پاتا ہوں)۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے میں بیان کیا ہے۔

١٧/٢٢٨ . عن جابر<sup>رضي الله عنهما</sup> أن وفد نجران أتوا النبي<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> فقالوا: ما تقول في عيسى بن مريم؟ فقال: هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله قالوا له: هل لك أن نلاعنك؟ إنه ليس كذلك قال: وذاك أحب إليكم؟ قالوا: نعم قال: فإذا شئتم فجاء النبي<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> وجماع ولده والحسين والحسين رئيسيهم: لا تلاعنوا هذا الرجل. فوالله، لئن لا عنتموه ليخسفن أحد صليت فجاءو فقلوا: يا أبا القاسم، إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤنا، وإننا نحب أن تعفينا قال: قد أغفیتكم ثم قال: إن العذاب قد أظل نجران.

رواہ الحاکم . و قال: هذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ .

”حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سے مروی ہے کہ نجران کا ایک وفد حضور نبی اکرم<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کی حضرت عیسیٰ بن مریم<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> نے فرمایا: وہ روح اللہ، کلمۃ اللہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس وفد نے آپ<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> سے کہا: کیا آپ ہمارے ساتھ م拜لہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> ایسے نہ تھے؟ تو آپ<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> نے فرمایا: تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ تو آپ<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> نے فرمایا: جیسے تمہاری مرضی پھر آپ<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> گھر تشریف لائے اور اپنے بیٹوں حسن و حسین علیہما السلام کو ساتھ لے جانے کے لئے جمع کیا۔ ان کے ایک سردار نے ان سے کہا کہ اس آدمی سے م拜لہ مت کرو۔ اللہ کی قسم! اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا کوئی بھی مضبوط سے مضبوط آدمی بھی نہیں بچے گا۔ پھر وہ عیسائی حضور نبی اکرم<sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> کے پاس آئے اور کہا: اے ابو القاسم! ہمارے کچھ بیوقوف لوگوں نے آپ سے م拜لہ کا ارادہ

کیا تھا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے انہیں معاف کیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: عذاب نے نجران کو گھیر لیا تھا۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔



## ٣. فَصْلٌ فِي كَوْنِ حُبِّهِمَا حُبَّ النَّبِيِّ

وَبُغْضِهِمَا بُغْضَ النَّبِيِّ ﷺ

﴾حسین کریمین علیہما السلام سے محبت حضور ﷺ سے محبت اور ان

سے بغض حضور ﷺ سے بغض ہونے کا بیان ﴿

١٨/٢٢٩ . عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخْدَى بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذِينَ وَأَبَاهُمَا وَأَمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

رواء الترمذی وأحمد، وقال أبو عيسی: هذا حديث حسن.

”حضرت علی بن ابی طالب ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حسن اور حسین علیہما السلام کا ہاتھ کپڑا اور فرمایا: جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانہ پر ہوگا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

١٨: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب علی بن أبى طالب، ٦٤١/٥، الرقم: ٣٧٣٣، وأحمد بن حببل فى المسند، ٧٧/١، الرقم: ٥٧٦، وفي فضائل الصحابة، ٦٩٣/٢، الرقم: ١١٨٥ - والطبرانى فى المعجم الكبير، ٣/٥٠، الرقم: ٢٦٥٤

١٩/٢٣٠ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﷺ : أَنَا حَرُبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَسَلِّمْ لِمَنْ سَالَمْتُمْ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ .

وَفِي رَوَايَةٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : أَنَا حَرُبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسَلِّمْ لِمَنْ سَالَمَكُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

”حضرت زید بن ارقم ﷺ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سلام اللہ علیہم سے فرمایا: جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔“  
اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا: جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا (یعنی جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا بھی

١٩: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب فضل فاطمة بنت محمد، ٦٩٩/٥، الرقم: ٣٨٧٠، وابن ماجه فى السنن، المقدمة، باب فى فضل الحسن والحسين، ١/٥٢، الرقم: ١٤٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤٤٢/٢ وابن حبان فى الصحيح، ٤٣٤/١٥، الرقم: ٦٩٧٧، وابن أبي شيبة فى المصنف، ٣٧٨/٦، الرقم: ٣٢١٨١ . والحاكم فى المستدرك، ١٦١/٣، الرقم: ٤٧١٤ .

دوست ہے)۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

۲۰/۲۳۱ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

روأه ابُنُ ماجه وَ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

”حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے حسن اور حسین علیہما السلام سے محبت کی، اس نے درحقیقت مجھ ہی سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔“

اس حدیث کو امام ابن ماجہ، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔

۲۱/۲۳۲ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحَبَنِي فَلَيُحِبَّ هَذَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

”حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ سے محبت کی، اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔“

اس حدیث کو امام نسائی اور ابن خزیمه نے روایت کیا ہے۔

۲۰: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب فضل الحسن والحسين، ۵۱/۱، الرقم: ۱۴۳، والنمسائي في السنن الكبرى، ۴۹/۵، الرقم: ۸۱۶۸، وأحمد بن حنبل في المسند، ۲۸۸/۲، الرقم: ۷۸۶۳ والطبراني في المعجم الأوسط، ۱۰۲/۵، الرقم: ۴۷۹۵ -

۲۱: أخرجه النمسائي في السنن الكبرى، ۵/۵، الرقم: ۸۱۷۰، وفي فضائل الصحابة، ۲۰/۱، الرقم: ۶۷، وابن خزيمة في الصحيح، ۴۸/۲، الرقم: ۸۸۷، والبزار في المسند، ۵/۲۲۶، الرقم: ۱۸۳۴ -

## ٤. فَصْلٌ فِي مَكَانِتِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

﴿ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حسین کریمین کے مقام و مرتبہ کا

### بيان

٢٣٣/٢٢ . عن البراء رضي الله عنه قال: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، فَأَحِبْهُمَا . رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

”حضرت براء بن عازب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حسین کریمین علیہما السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا: اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔“ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

٢٣٤/٢٣ . عن أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قال: طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ

٢٢: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، ٦٦١ / ٥، الرقم: ٣٧٨٢ -

٢٣: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب مناقب الحسين والحسين، ٦٥٦ / ٥، الرقم: ٣٧٦٩، وابن حبان في الصحيح، ٤٢٣ / ١٥، الرقم: ٤٩٦٧ و الطبراني في المعجم الكبير، ٣٩ / ٣، الرقم: ٢٦١٨ -

مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى وَرْكِيهِ فَقَالَ: هَذَا إِنِّي أَبْنَاءُ ابْنَتِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبْهُمَا وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ.

”حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور آپ کسی چیز کو اپنے جسم سے چھٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے کیا چیز چھٹا رکھی ہے؟ آپ ﷺ نے کپڑا اٹھایا تو وہ حسن اور حسین تھے۔ فرمایا: یہ میرے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

٢٤/٢٣٥ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ أَهْلَ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ ادْعِي ابْنَيَ فَيُشْمُهُمَا وَيُصْمُهُمَا إِلَيْهِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو يَعْلَى.

”حضرت انس بن مالک صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا گیا: آپ کو اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

٤: آخرجه الترمذی فی السنن، کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، ٦٥٧/٥، الرقم: ٣٧٧٢، وأبويعلی فی المسند، ٢٧٤/٧، الرقم: ٤٢٩٤ -

حسن اور حسین اور آپ ﷺ حضرت فاطمہ سے کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو بلا وہ بھر آپ ﷺ انہیں چوتے اور انہیں اپنے ساتھ لپڑا لیتے۔“  
اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔

٢٣٦ . ٢٥ / عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشَرَانِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللَّهُ : { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } فَنَظَرْتُ إِلَى هَذِئِنَ الصَّابِيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشَرَانِ ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْشِيَ وَرَفَعْتُهُمَا . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٍ .

”حضرت ابو بریدہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسین کریمین علیہما السلام تشریف لائے، انہوں نے سرخ رنگ کی تیصین پہنی ہوئی تھیں اور وہ (کم عمر ہونے کی وجہ سے) لڑکھرا کر چل رہے تھے۔ حضور نبی اکرم ﷺ (انہیں دیکھ کر) منبر سے یونچ تشریف لے آئے، دونوں (شہزادوں) کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا تھا ہے: ”بیشک تمہارے اموال اور

٢٥ : أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، ٦٥٨ / ٥، الرقم: ٣٧٧٤، والنمسائى فى السنن، كتاب صلاة العيدىن، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراعنه من الخطبة، ١٩٢ / ٣، الرقم: ١٥٨٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣٤٥ / ٥، وابن حبان فى الصحيح، ٤٠٣ / ١٣، الرقم: ٦٠٣٩، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢١٨ / ٣، الرقم: ٥٦١٠ -

تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔“ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہانے گیا حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھالیا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اورنسائی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا:  
یہ حدیث حسن ہے۔

٢٦/٢٣٧ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَوَاتِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى، فَسَاجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطْالَاهَا. قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَاجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطْالَتْهَا حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَّ أَمْرًا أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ. قَالَ: ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ أَبْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

”حضرت عبد اللہ بن شداد رض اپنے والد حضرت شداد بن بادی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لئے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین علیہما السلام (میں سے کسی ایک شہزادے) کو اٹھائے

٢٦: أخرجه النسائي في السنن، كتاب التطبيق، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، ٢٢٩/٢، الرقم: ١١٤١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤٩٣/٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٨٠/٦، الرقم: ٣٢١٩١ - الطبراني في المعجم الكبير، ٢٧٠/٧، الرقم: ٧١٠٧

ہوئے تھے۔ حضور ﷺ نے تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھا دیا پھر نماز کے لئے تکبیر فرمائی اور نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز کے دوران حضور ﷺ نے طویل سجدہ کیا۔ شداد نے کہا: میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادے سجدے کی حالت میں آپ ﷺ کی پشت مبارک پر سوار ہیں۔ میں پھر سجدہ میں چلا گیا۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ نماز ادا فرم اچکے تو لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آپ نے نماز میں اتنا سجدہ طویل کیا۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی امرِ الٰہی واقع ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسی کوئی بات نہ تھی مگر یہ کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لئے (سجدے سے اٹھنے میں) جلدی کرنا اچھا نہ لگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو۔“

اس حدیث کو امام نسائی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٢٣٨/٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
وَمَعْهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَلِشُمُ هَذَا  
مَرَّةً وَيَلِشُمُ هَذَا مَرَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ  
تُحِبُّهُمَا فَقَالَ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

رواه احمد والحاکم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد.

”حضرت ابو ہریرہ رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ کے ایک کندھے پر امام حسن رض اور دوسرا کندھے پر امام حسین رض سوار تھے۔ آپ ﷺ دونوں کو باری باری چوم رہے تھے یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ کر رک گئے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ان سے محبت کرتے

٢٧: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٤٠٠ / ٢، الرقم: ٩٦٧١  
والحاکم في المستدرک، ١٨٢ / ٣، الرقم: ٤٧٧٧ -

ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔“

اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

٢٣٩ / ﻋَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا أَقْبَلَا يَمْشِيَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ أَحَدُهُمَا جَعَلَ يَدَهُ فِي عُقْقِهِ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَعَلَ يَدَهُ الْآخَرَ فِي عُقْقِهِ، فَقَبَّلَ هَذَا ثُمَّ قَبَّلَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت یعلی بن مرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حسین کریمین علیہما السلام حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف چل کر آئے، پس ان میں سے جب ایک پہنچا تو آپ ﷺ نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالا، پھر دوسرا پہنچا تو آپ ﷺ نے اپنا دوسرا بازو اس کے گلے میں ڈالا، بعد ازاں ایک کو چوما اور پھر دوسرے کو چوما اور فرمایا: اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٢٤٠ / ﻋَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ بُكَاءً الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، فَقَامَ فَزِعًا، فَقَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ لِفُتْنَةٍ لَقَدْ قُمْتُ إِلَيْهِمَا وَمَا أَعْقِلُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”بھی بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت حسن اور حسین علیہما السلام کے رونے کی آواز سنی تو پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: بے شک

٢٤٠: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٣٢/٣، الرقم: ٢٥٨٧ ، ٢٧٤/٢٢ ، الرقم: ٧٠٣۔

٢٩: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٧٩ ، الرقم: ٣٢١٨٦۔

اولاد آزمائش ہے، میں ان کے لئے بغیر غور کئے کھڑا ہو گیا ہوں۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٤١ / ٣٠ . عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَمَرَّ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعَ حُسَيْنًا يَبْكِي، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِ أَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِنِي. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ .

”حضرت یزید بن ابو زیاد رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے گھر سے باہر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ سلام الله علیہا کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٢ / ٣١ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْهُدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الظَّرِيقِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَهُمَا يَبْكِيَانَ وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَتَاهُمَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهَا: مَا شَاءَ أَبْنَى؟ فَقَالَتْ: الْعَطْشُ قَالَ: فَأَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَنَّةٍ يَبْتَغِي فِيهَا مَاءً. وَكَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذٍ أَغْدَارًا، وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَاءَ. فَنَادَى: هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَهُ مَاءً؟ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَى كَلَابِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنَّةٍ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَأْوِلُنَا أَحَدَهُمَا، فَنَأْوَلْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخِدْرِ،

- ٣٠: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٦/٣، الرقم: ٢٨٤٧ -

- ٣١: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٥٠/٣، الرقم: ٢٦٥٦ -

فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَطْعُو مَا يَسْكُتُ، فَأَدْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ فَجَعَلَ  
يَمْصُهُ حَتَّى هَدَأَ أَوْ سَكَنَ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً، وَالآخْرُ يُسْكِي كَمَا هُوَ مَا  
يَسْكُتُ فَقَالَ: نَأْوِلُنَا الْآخَرُ، فَنَاوَلَتْهُ إِيَاهُ فَفَعَلَ بِهِ كَذِلِكَ، فَسَكَتَا  
فَمَا سُمِعَ لَهُمَا صَوْتٌ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم حضور نبی  
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (سفر میں) نکلے، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و  
حسین علیہما السلام کی آواز سنی دونوں رو رہے تھے اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ (سیدہ فاطمہ)  
کے پاس ہی تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس تیزی سے پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رض  
کہتے ہیں کہ) میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ فرماتے ہوئے سنا:  
میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور  
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے کے لئے مشکنیز کی طرف بڑھے۔ ان دونوں پانی کی سخت قلت  
تھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی: کیا کسی کے  
پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے کجا دوں سے لٹکتے ہوئے مشکنیزوں میں پانی دیکھا مگر ان کو قطرہ  
لتک نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا: ایک بچہ مجھے دو انہوں نے  
ایک کو پردے کے نیچے سے پکڑایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا  
مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا اور خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے اُس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی وہ اُسے چونسے لگا حتیٰ کہ سیرابی کی وجہ  
سے سکون میں آگیا میں نے دوبارہ اُس کے رونے کی آواز نہ سنی، جب کہ دوسرا بھی اُسی  
طرح (مسلسل رو رہا تھا) پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوسرا بھی مجھے دے دو تو  
سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دوسرے کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا حضور نبی  
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی معاملہ کیا (یعنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی) سو وہ

دونوں ایسے خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ ان کے روئے کی آواز نہ سنی۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٢ / ٤٣      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ شَهِيدَيْنَ عَلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ فَسَلَّمَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ شَهِيدَيْنَ: ارْقِ بِأَبِيهِ أَنْتَ عَيْنَ بُقَةٍ. وَأَخْذِ بِإِصْبَعِيهِ فَرَقِيَ عَلَى عَاتِقِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الْآخِرُ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ مُرْتَفِعًا إِحْدَى عَيْنِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ شَهِيدَيْنَ: مَوْجِبًا بِكَ ارْقِ بِأَبِيهِ أَنْتَ عَيْنَ الْبُقَةِ وَأَخْذِ بِإِصْبَعِيهِ فَاسْتَوِي عَلَى عَاتِقِهِ الْآخِرِ۔ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ۔

”حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے رکے تو آپ ﷺ نے سیدہ فاطمۃ الزہراء کو سلام کیا۔ اتنے میں حسین کریمین علیہما السلام میں سے ایک شہزادہ گھر سے باہر آ گیا حضور نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جا تو (میری) آنکھ کا تارا ہے، حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں ہاتھ سے کپڑا پس وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے دوش مبارک پر سوار ہو گئے۔ پھر دوسرا شہزادہ حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف تکتا ہوا باہر آ گیا تو اسے بھی فرمایا: خوش آمدی، اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جا تو (میری) آنکھ کا تارا ہے اور حضور نبی اکرم ﷺ نے اسے اپنی انگلیوں کے ساتھ کپڑا پس وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے دوسراے دوش مبارک پر سوار ہو گئے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤/٢٤ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ وَالْحَسِينُ يَلْعَبَانِ عَلَى بَطْرِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَاهِي. رَوَاهُ البِزَّارُ.

”حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فراتي پیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو (دیکھا کہ) حسن اور حسین علیہما السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے، تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان سے محبت کیوں نہ کروں حالانکہ وہ دونوں میرے پھول ہیں۔“ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔

٤/٢٥ . عَنْ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا يَوْمًا فَقَالَ: أَيْنَ ابْنَائِي؟ فَقَالَتْ: ذَهَبَ بِهِمَا عَلَيِّ فَتَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَهُمَا يَلْعَبَانِ فِي مَشْرِبَةٍ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَصُلِّ مِنْ تَمَرٍ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ أَلَا تُقْلِبُ ابْنَيَ قَبْلَ الْحَرِّ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا: میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھلیتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بیجی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! خیال رکنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٣: آخرجه البزار فی المسند، ٢٨٧/٣، الرقم: ١٠٧٩ -

٣٤: آخرجه الحاکم فی المستدرک، ١٨٠/٣، الرقم: ٤٧٧٤ -

٥. فَصُلْ فِيمَنْ أَحَبَّهُمَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ

أَبْغَضَهُمَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

﴿اللَّهُ تَعَالَى كَ حَسَنِينَ كَرِيمِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ سَمِّحَتْ رَكْنَهُ  
وَالْوَلُوْنَ كَوْ جَنَّتْ اُورَانَ سَبْغَضَ رَكْنَهُ وَالْوَلُوْنَ كَوْ دَوْزَخَ مَيْنَ  
دَاخِلَ كَرْنَهُ كَ بَيَان﴾

٣٥/٢٤٦ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَاهِي، مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللَّهُ،  
وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ  
الَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ。 رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

”حضرت سلمان فارسي ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو  
فرماتے ہوئے سنا: حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں جس نے حسن اور حسین علیہما السلام سے  
محبت کی، اُس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت  
کی اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جس نے حسن اور  
حسین علیہما السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا  
اس پر اللہ کا غصب ہوا اور جس پر اللہ کا غصب ہوا اللہ نے اسے آگ میں داخل کر دیا۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

٣٦/٢٤٧ . عَنْ سَلْمَانَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؓ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحْبَبْتُهُ، وَمَنْ أَحَبَّتْهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت سلمان فارسي ؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ؓ نے حسن و حسین علیہما السلام کے لئے فرمایا: جس نے ان سے محبت کی اس سے میں نے محبت کی، اور جس سے میں محبت کروں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتا ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٧/٢٤٨ . عَنْ سَلْمَانَ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؓ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: مَنْ أَبْغَضَهُمَا أَوْ بَغَى عَلَيْهِمَا أَبْغَضُتُهُ، وَمَنْ أَبْغَضَتُهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت سلمان فارسي ؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ؓ نے حسن اور حسین علیہما السلام کے بارے میں فرمایا: جس نے ان سے بغض رکھا یا ان سے بغاوت کی وہ میرے ہاں مبغوض ہو گیا اور جو میرے ہاں مبغوض ہو گیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا اور جو اللہ کے ہاں غصب یافتہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا (جہاں) اس کے لئے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہو گا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٨/٢٤٩ . عَنْ عَلَيٍّ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ؓ قَالَ: أَنَا وَفَاطِمَةُ وَحَسَنُ وَحُسَيْنٌ مُجْتَمِعُونَ، وَمَنْ أَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَأْكُلُ وَنَشَرِبُ حَتَّى يُفَرَّقَ

٣٦ : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٣ / ٥٠، الرقم: ٢٦٥٥ -

٣٧ : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٣ / ٥٠، الرقم: ٢٦٥٥ -

٣٨ : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٣ / ٤١، الرقم: ٢٦٢٣ -

بَيْنَ الْعِبَادِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت علی ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں، فاطمہ، حسن، حسین اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے، ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہو گا تا آنکہ لوگ (حساب و کتاب کے بعد) جدا جدا کر دیئے جائیں گے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔



## ٦. فَصْلٌ فِي مَكَانَتِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْجَنَّةِ

﴿ حَسْنِينَ كَرِيمِيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَجَنَّتِ مَلِكٍ مَقَامٍ وَمَرْتَبٍ ﴾

٣٩/٢٥٠ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

رواه الترمذی وابن ماجہ عن ابن عمر وزاد: وأبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا .

”حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور یہ اضافہ کیا: ان کے والدان سے بہتر ہیں۔

٤٠/٢٥١ . عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ

٣٩: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، ٦٥٦/٥، الرقم: ٣٧٦٨، وابن ماجہ فی السنن، باب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، فضل على بن أبي طالب، ١/٤٤، الرقم: ١١٨، والنمسائی فی السنن الكبرى، ٥٠/٥، الرقم: ٨١٦٩، وأحمد بن حنبل فی المسند، ٣/٣، الرقم: ١١٠١٢، وابن حبان فی الصحيح، ٤/١٥، الرقم: ٦٩٥٩، وابن أبي شيبة فی المصنف، ٦/٣٧٨، الرقم: ٣٢١٧٦ .

٤٠: أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند، ٢/٦٤، والطبراني فی المعجم الكبير، ١/٣١٩، الرقم: ٩٥٠ -

اللهُ مُتَعَلِّم حَسَدَ النَّاسَ إِيَّايَ، فَقَالَ: أَمَا تُرْضِي أُنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: أَنَا وَأَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبرَانِيُّ.

”حضرت على ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے چار مردوں میں چوتھے تم ہو (وہ چار) میں، تم، حسن اور حسین ہیں۔“ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤١/٢٥٢ . عَنْ عَلَيٰ َ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ مُتَعَلِّم أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمُحِبُّوْنَا؟ قَالَ: مِنْ وَرَائِكُمْ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

”حضرت على ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں، میں (یعنی حضرت على ﷺ خود)، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پیچھے پیچھے۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا: اس کی حدیث اسناد صحیح ہیں۔

٤٢/٢٥٣ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ َ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ مُتَعَلِّم دَخَلَ

٤١: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٦٤/٣، الرقم: ٤٧٢٣ -

٤٢: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/١٠١، الرقم: ٧٩٢، والحاكم في المستدرك، ١٤٧/٣، الرقم: ٤٦٦٤، والطبراني في المعجم الكبير، ٤٠٥:٢٢، الرقم: ١٠١٦ -

عَلَىٰ فَاطِمَةَ رضي الله عنها فَقَالَ: إِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذَا النَّائِمُ يَعْنِي: عَلَيًّا وَهُمَا  
يَعْنِي: الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ لَفِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

”حضرت ابو سعيد خدریؓ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا: میں، تم اور یہ سونے والا (یعنی علی وہ ابھی سو کر اٹھے ہی تھے) اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین علیہما السلام قیامت کے دن ایک ہی جگہ ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔

٤٣/٤٥٤ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ شَفَا الْعَرْشَ وَلَيْسَا بِمُعَلَّقِينَ، وَإِنَّ الْبَيِّنَاتِ  
إِذَا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ، وَعَدْتَنِي أَنْ  
تُبَيِّنَنِي بِرُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِكَ قَالَ: أَوْلَمْ أَرْبِنْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ؟  
رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں لیکن وہ لئکے ہوئے نہیں اور آپ ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی: اے پروردگار! تو نے مجھے اپنے ستونوں میں سے دو ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کی موجودگی کے ذریعے مزین نہیں کر دیا؟ (یہی تو میرے دوستون ہیں)۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٤/٢٥٥ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارَنِي، فَأَسْتَأْذِنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَتِي، فَبَشَّرَنِي: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آسمان کے ایک فرشتے نے (اس سے پہلے) میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے میری زیارت کے لئے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوبخبری سنائی کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٥/٢٥٦ . عَنْ أَنَسِ رض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: فَخَرَّتِ الْجَنَّةُ عَلَى النَّارِ فَقَالَتْ: أَنَا خَيْرٌ مِنْكِ، فَقَالَتِ النَّارُ: بَلْ أَنَا خَيْرٌ مِنْكِ، فَقَالَتْ لَهَا الْجَنَّةُ أَسْتِفْهَا مَا: وَمَمَّةٌ؟ قَالَتْ: لَأَنَّ فِي الْجَبَابِرَةِ وَنَمُروذَ وَفِرْعَوْنَ فَأَسْكَتُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا: لَا تَخْضُعِينَ، لَا زَيْنَ رُكَنِيْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فَمَاسَتْ كَمَا تَمِيِّسُ الْعُرُوْسُ فِي خِدْرِهَا. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت انس رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مرتبہ جنت نے دوزخ پر فخر کیا اور کہا میں تم سے بہتر ہوں، دوزخ نے کہا: میں تم سے بہتر ہوں۔ جنت نے دوزخ سے پوچھا کس وجہ سے؟ دوزخ نے کہا: اس لئے کہ مجھ میں

٤٤: أخرجه النسائي في السنن الكبرى، ١٤٦/٥، الرقم: ٨٥١٥  
والطبراني في المعجم الكبير، ٣٦/٣، الرقم: ٢٠٦٠٤ -

٤٥: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ١٤٨/٧، الرقم: ٧١٢٠ -

بڑے بڑے جابر حکمران فرعون اور نمرود ہیں۔ اس پر جنت خاموش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف وحی کی اور فرمایا: تو عاجز و لا جواب نہ ہو، میں تیرے دوستوں کو حسن اور حسین کے ذریعے مزین کر دوں گا۔ پس جنت خوشی اور سرور سے ایسے شرماگئی جیسے دہن شرماتی ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔



## ٧. فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِمَا وَمَنَّا قِبْلَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

﴿حسين کریمین علیہما السلام کی جامع صفات اور مناقب کا بیان﴾

٤٦/٢٥٧ . عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ  
الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ  
وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ  
عَيْنٍ لَامَّةٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهِ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ  
حضرت حسن اور حسین علیہما السلام کو (خصوصی طور پر) کلمات تعود کے ساتھ دم فرماتے تھے  
اور فرماتے: تمہارے جد احمد (حضرت ابراہیم اللہ عزوجلہ بھی) اپنے دونوں صاحزوں  
حضرت اسماعیل و اسحاق (علیہما السلام) کے لئے ان کلمات کے ساتھ تعود کرتے تھے:  
﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ﴾ ”میں اللہ  
تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر (وسوسہ اندازی کرنے والے) شیطان اور بلا سے اور  
ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔“

اس حدیث کو امام بخاری، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٤٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأنبياء، باب يزفون النساء في  
المشي، ١٢٣٣/٣، الرقم: ٣١٩١، وأبو داود في السنن، كتاب  
السنة، باب في القرآن، ٤/٤، ٢٣٥، الرقم: ٤٧٣٧، وابن ماجه في  
السنن، كتاب الطب، باب ما عوذ به النبي ﷺ وما عوذ به،  
- ٣٥٢٥ / ١١٦٤، الرقم: ١١٦٤/٢

٤٧/٢٥٨ . عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ نُجَبَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةً نُجَباءً أَوْ نُقَبَاءَ، وَأُعْطِيَتُ أَنَا أَرْبَعَةً عَشَرَ . قُلْنَا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا وَابْنَائِي وَجَعْفُرُ وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلالٌ وَسَلْمَانٌ وَالْمِقْدَادُ وَحُذَيْفَةُ وَعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ .

*رواه الترمذی وأحمد، وقال أبو عیسی: هذَا حَدِیث حَسَنٌ.*

”حضرت مسیب بن نجہہ رض، حضرت علی رض سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو سات نجیب یا نقیب عطا کئے گئے جبکہ مجھے چودہ نقیب عطا کئے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رض سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو حضرت علی رض نے بتایا: میں، میرے دونوں بیٹیے، جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، حذیفہ، عمار اور عبد اللہ بن مسعود رض۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

٤٨/٢٥٩ . عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا

٤٧: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٥/٦٦٢، الرقم: ٣٧٨٥، وأحمد بن حنبل فی المسند، ١/١٤٢، الرقم: ١٢٠٥، وابن أبي عاصم فی الآحاد والمثانی، ١/١٨٩، الرقم: ٢٤٤، والطبرانی فی المعجم الكبير، ٦/٢١٥، الرقم: ٦٠٤٧ -

٤٨: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن -

بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَخْمَدُ، وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت علی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن سینہ سے سرتک رسول اللہ ﷺ کی کامل شبیہ تھے اور حضرت حسین سینہ سے نیچے تک حضور نبی اکرم ﷺ کی کامل شبیہ تھے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

٤٩/٢٦٠ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ أُو رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِيهِ، قَالَ: وَيَقُولُ: رَبِّحَاتِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

”حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ القدس میں حاضر ہوتا یا (فرمایا) اکثر اوقات حاضر ہوتا (اور دیکھتا کہ) حسن و حسین علیہما السلام آپ ﷺ کے شکم مبارک پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اور حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے ہوئے ہوتے: یہ دونوں ہی تو میری امت کے پھول ہیں۔“

اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

..... والحسين، ٥/٦٦٠، الرقم: ٣٧٧٩، وأحمد بن حنبل في المسند،

١/٩٩، الرقم: ٧٧٤، وابن حبان في الصحيح، ١٥/٤٣٠، الرقم:

- ٦٩٧٤ ، والطیالسي في المسند، ١/٩١، الرقم: ١٣٠

٤٩: أخرجه النساء في السنن الكبرى، ٥/٤٩، ١٥٠، ٨١٦٧ ، الرقم:

٥٠/٢٦١ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِي فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعْوَهُمَا، فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ .  
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

”حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نماز ادا فرم رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو حسین کریمین علیہما السلام آپ ﷺ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، جب لوگوں نے انہیں روکنا چاہا تو آپ ﷺ نے لوگوں کو اشارہ فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو یعنی سوار ہونے دو، پھر جب نماز ادا فرمائے تو آپ ﷺ نے دونوں کو اپنی گود میں لے لیا۔“ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

٥١/٢٦٢ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَحْنُ وَلَدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ: أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلَيُّ وَجَعْفَرُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ .

”حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہیں جن میں میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مهدی شامل ہیں۔“

اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٥٠: آخرجه النسائي في السنن الكبرى، ٥ / ٥٠، الرقم: ٨١٧٠ -

٥١: آخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الفتن، باب خروج المهدى، ٢/٣٣٣، الرقم: ٤٠٨٧، والحاكم في المستدرك، ٢/٣٦٨، الرقم:

٥٢/٢٦٣ . عَنْ أَبِي الْمَعْدِلِ عَطِيَّةِ الطَّفَوَيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي يَوْمًا إِذْ قَالَ الْخَادِمُ: إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بِالسَّدَّةِ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي: قُوْمِي فَتَسْحِي لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي، قَالَتْ: قُمْتُ فَتَسْحِيْتُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا، فَدَخَلَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةُ وَمَعْهُمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَهُمَا صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الصَّبِيَّيْنِ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ فَقَبَلَهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

”حضرت ابو معدل عطيه الطفاوي رضي الله عنه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله عنها نے بیان کیا کہ ایک دن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے ایک خادم نے عرض کیا: دروازے پر علی اور فاطمہ علیہما السلام آئے ہیں۔ ام سلمہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا: ایک طرف ہو جاؤ اور مجھے اپنے اہل بیت سے ملنے دو۔ ام سلمہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: میں پاس ہی گھر میں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی، پس علی، فاطمہ اور حسین کریمین علیہما السلام داخل ہوئے اس وقت وہ کم سن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو پکڑ کر گود میں بٹھا لیا اور دونوں کو چونے لگے۔“ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٥٣/٢٦٤ . عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الْبَشَارَةُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ حَامِلُهُمَا عَلَى مَجْلِسٍ مِّنْ مَحَالِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِعْمَتِ الْمَطِيَّةِ قَالَ: وَنِعْمَ الرَّأْكَبَانِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

٥٢: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ٦/٢٩٦، الرَّقم: ٢٦٥٨٢ -

٥٣: أخرجه أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصْنَفِ، ٦/٣٨٠، الرَّقم: ٣٢١٨٥ -

”حضرت ابو جعفر عليه السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کریمین علیہما السلام کو اٹھائے ہوئے انصار کی ایک مجلس سے گزرے تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا خوب سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوار بھی کیا خوب ہیں۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٥٤/٢٦٥      عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجَنْبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ لَا تَصْلُوَا.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

”حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار! یہ مسجد کسی جبی اور حائضہ کے لئے حلال نہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے۔ ان برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ کسی کے لئے مسجد نبوی میں حالت جنابت میں مسجد میں آنا جائز نہیں، آگاہ ہو جاؤ! میں نے تمہیں نام بتا دیئے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔“ اس حدیث کو امام تیہقی نے روایت کیا ہے۔

٥٥/٢٦٦      عَنْ عَلِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْتُرَ إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ عُنْقِهِ إِلَى وَجْهِهِ فَلَيَنْتُرْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْتُرَ إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ عُنْقِهِ إِلَى

٤: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٦٥/٧، الرقم: ١٣١٧٨ - ١٣١٧٩

٥: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٩٥/٣، ٢٧٦٨، ٢٧٥٩، الرقم: ٢٧٥٩ -

كَعِبَةِ حَلْقًا وَلَوْنًا فَلِنُظُرُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَىٰ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت علیؑ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک حضور نبی اکرم ﷺ کی سب سے کامل شبیہ ہوتا وہ حضرت حسن بن علیؑ کو دیکھ لے اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رکھت اور صورت دونوں میں حضور نبی اکرم ﷺ کی سب سے کامل شبیہ ہوتا وہ حضرت حسین بن علیؑ کو دیکھ لے۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

۵۶/۲۶۷ عن أبي رافع رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه وسلم بحسين وحسين إلى رسول الله صلوات الله عليه وسلم في مرضه الذي قُبض فيه فقالت: هذان ابناك فوراً ثهما شيئاً فقال لها: أما حسن فإن له ثباتي وسوددي، وأما حسين فإن له حزامتي وجودي. رواه الطبراني.

”حضرت ابو رافع رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم ﷺ کے مرض وصال میں اپنے دونوں بیٹوں کو آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں لاٹیں اور عرض گزار ہوئیں کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں انہیں کچھ وراثت میں عطا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حسن کے لئے میری ثابت قدمی اور سرداری کی وراثت ہے اور حسین کے لئے میری طاقت و سختاوت کی وراثت۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۵۷/۲۶۸ عن فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه وسلم: أنها أتت بالحسين والحسين أباها رسول الله صلوات الله عليه وسلم في شكرته التي مات فيها فقالت:

٥٦: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢٢٢/٦ -

٥٧: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٤٢٣/٢٢، الرقم: ١٠٤١ -

تُورِّثُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَيئًا فَقَالَ: أَمَا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُوْدَدِي،  
وَأَمَا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَاتِي وَجُوْدِي. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے بابا حضور نبی اکرم ﷺ کے مرض وصال کے دوران حضرت حسن اور حسین کو آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں لائیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حسن میری ہبہت و سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأۃ و سخاوت کا۔“  
اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٨/٢٦٩. عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا حَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ ضَلَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، قَالَ: وَذَلِكَ رَأْدُ النَّهَارِ يَقُولُ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا فَاطْلُبُوْا ابْنَيَّ. قَالَ: وَأَخَدَ كُلُّ رَجُلٍ تُجَاهَ وَجْهِهِ، وَأَخَدْتُ نُحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَتَى سَفَحَ جَبَلٍ وَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مُلْتَزِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَةٌ، وَإِذَا شُجَاعٌ قَائِمٌ عَلَى ذَنْبِهِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شِبْهُ النَّارِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْتَّفَتَ مُخَاطِبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ انْسَابَ فَدَخَلَ بَعْضُ الْأَحْجَرَةِ، ثُمَّ أَتَاهُمَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَمَسَحَ وَجْهَهُمَا وَقَالَ: بِأَبِي وَأَمِي أَنْتُمَا مَا أَكْرَمْتُمَا عَلَى اللَّهِ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت سلمان فارسی ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس تھے۔ حضرت ام ایمن آپ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا: حسن و حسین علیہما

السلام گم ہو گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں دن خوب نکلا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو، راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ لیا اور میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ چل پڑا، آپ ﷺ مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ پھر اس کے دامن تک پہنچ گئے (دیکھا کر) حسن اور حسین علیہما السلام ایک دوسرے کے ساتھ چھٹے ہوئے ہیں اور ایک اژدها اپنی دم پر کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں (اور وہ دونوں شہزادوں کی حفاظت پر مامور تھا)۔ آپ ﷺ اس کی طرف تیزی سے بڑھے تو وہ اژدها حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر سکڑ گیا پھر کھسک کر پھر وہ میں چھپ گیا پھر آپ ﷺ حسین کریمین علیہما السلام کے پاس تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو پوچھا اور فرمایا: میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ کے ہاں کتنی عزت والے ہو۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٥٩/٢٧٠ . عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَةِ، وَعَلَى ظَهِيرَةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُوَ يَقُولُ: نِعَمُ الْجَمْلُ جَمِلُكُمَا، وَنِعَمُ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا تو آپ ﷺ چار ٹانگوں (گھنٹوں اور دونوں ہاتھوں کے بل) پر چل رہے تھے اور آپ ﷺ کی پشت مبارک پر حسین کریمین علیہما السلام سوار تھے اور آپ ﷺ فرمارہے تھے: تمہارا اونٹ کیا خوب ہے اور تم دونوں کیا خوب سوار ہو،“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٦٠ / ٢٧١ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما رَفَعَهُ: أَنَا شَجَرَةُ، وَفَاطِمَةُ حَمْلُهَا، وَعَلِيُّ لِقَاحُهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرُتُهَا، وَالْمُحِبُّونَ أَهْلَ الْبُيْتِ وَرَقْهَا، مِنَ الْجَنَّةِ حَقًا حَقًا . رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ .

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شکوفہ اور حسن و حسین اس کا پھل ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے حق ہے۔“ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

## الْبَابُ الْخَامِسُ:

مَنَاقِبُ أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ  
﴿أَمَهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَنَاقِبُ﴾





## ١. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ بِنْتِ

**خُوَيْلِدٍ** رضي الله عنها

### ﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ خَدِيجَةَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ كَمَنَاقِبِ﴾

١/٢٧٢ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غَرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلَّبَّيِّنَاتِ مُشَاهِدَاتِهِ مَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، لِمَا كُنْتُ أُسْمَعَهُ يَدْكُرُهَا، وَأَمْرَةُ اللَّهِ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصْبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهَدِّي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعَهُنَّ. مُسْفَقٌ عَلَيْهِ .

”حضرت عائشة صديقة رضي الله عنها فرماتي پیں کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضي الله عنها پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پاچھی تھیں، لیکن میں آپ ﷺ کو ان کا (کثرت سے) ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے اور جب آپ ﷺ کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ ﷺ ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشٹ بھیجتے جو انہیں کفایت کر جاتا۔“

١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ،  
باب تزويع النبي ﷺ خديجة وفضائلها، ١٣٨٨/٣، الرقم: ٣٦٥  
ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ٤/١٨٨٨، الرقم: ٢٤٣٥، وأحمد بن حنبل في المسند،  
٦/٥٨، الرقم: ٢٤٣٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/٣٠٧،  
الرقم: ١٤٥٧٤ -

یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢/٢٧٣ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءً فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرُأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخْبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

”حضرت ابو ہریرہ رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرایل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالم اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٣/٢٧٤ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رض:

٢: آخر جه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب تزويع النبي صلی اللہ علیہ وسلم خديجة وفضلها ، ١٣٨٩/٣ ، الرقم: ٣٦٠٩ ، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ١٨٨٧/٤ ، الرقم: ٢٤٣٢ ، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٩٠/٦ ، الرقم: ٣٢٢٨٧ -

٣: آخر جه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، باب تزويع النبي صلی اللہ علیہ وسلم خديجة وفضلها ، ١٣٨٩/٣ ، الرقم: ٣٦٠٨ ، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ١٨٨٧/٤ ، الرقم: ٢٤٣٣ ، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٩٠/٦ ، الرقم: ٣٢٢٨٨ -

بَشَرَ النَّبِيُّ ﷺ خَدِيجَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. بِبَيْتٍ مِنْ قَصْبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت اسماعيل سے مردی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفرؑ سے پوچھا گیا: کیا حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، آپ ﷺ نے انہیں (جنت میں) ایسے محل کی بشارت دی تھی جو موتیوں سے بنا ہوگا اور اس میں نہ شوروں ہوگا اور نہ کوئی اور تکلیف ہوگی۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٤/٢٧٥. عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرِيمٌ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةٌ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہیں اور (اسی طرح) اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٥/٢٧٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنْتُ هَالَّةَ بُنْتُ خُوَيْلِدٍ

٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ،  
باب تزويع النبي ﷺ خديجة وفضائلها ، ١٣٨٨/٣ ، الرقم: ٤، ٣٦٠  
ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ١٨٨٦/٤ ، الرقم: ٢٤٣٠ ، وابن أبي شيبة في المصنف،  
٣٩٠، الرقم: ٣٢٢٨٩ -

٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، —

أَخْتَ حَدِيْجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَفَ اسْتِئْدَانَ حَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِذِلِكَ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ هَالَّةَ، قَالَتْ: فَغَرُثْ فَقُلْتُ: مَا تَدْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرِيشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضي الله عنها کی بہن ہالہ بنت خویلہ نے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسے حضرت خدیجہ رضي الله عنها کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرزہ براندام سے ہو گئے۔ پھر فرمایا: خدا یا! یہ تو ہالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا۔ پس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں، جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرمادیا ہے؟“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٦/٢٧٧ . عَنْ عَائِشَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا غَرُثْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ الْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غَرُثْ عَلَى حَدِيْجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ الْبَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقْطِعُهَا أَعْصَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ

..... باب تزویج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خدیجۃ وفضلها ، ۱۳۸۹/۳ ، الرقم: ۳۶۱۰ ،  
ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ۱۸۸۹/۴ ، الرقم: ۲۴۳۷ ، والبيهقي في السنن الكبرى،  
باب تزویج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خدیجۃ وفضلها ، ۱۳۸۹/۳ ، الرقم: ۱۴۵۷۳ - ۷

٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
باب تزویج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خدیجۃ وفضلها ، ۱۳۸۹/۳ ، الرقم: ۳۶۰۷ -

**خَدِيجَةَ فَرَبِّمَا قُلْتُ لَهُ: كَانَهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةً؟**  
**فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لَيِّ مِنْهَا وَلَدٌ. رَوَاهُ الْبَحَارِيُّ.**

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم ﷺ کی کسی زوجہ مطہرہ پر اتنا رشک نہیں آتا جنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم ﷺ اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے اور جب آپ ﷺ کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملنے والی عورتوں کے ہاں بھیجتے۔ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں کیا حضرت خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ہے؟ تو آپ ﷺ فرماتے ہیں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھیں اور میری اولاد بھی ان سے ہے۔“

اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

٧/٢٧٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غَرُثُتْ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا  
 عَلَى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ  
 الشَّاةَ فَيَقُولُ: أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِيقَاءِ خَدِيجَةَ، قَالَتْ: فَاغْضَبْتُهُ يَوْمًا  
 فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر رشک نہیں کیا، سو اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے (یعنی میں ان پر رشک کیا کرتی تھی) اور میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ

٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل  
 خديجة أم المؤمنين، ٤/١٨٨٨، الرقم: ٢٤٣٥، وابن حبان في  
 الصحيح، ١٥/٤٦٧، الرقم: ٧٠٠٦۔

## الإِحَاجَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

نہیں پایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بھی بکری ذبح کرتے تھے تو آپ ﷺ فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن غصہ میں آگئی اور میں نے کہا: خدیجہ، خدیجہ، ہی ہو رہی ہے۔ تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

٨/٢٧٩ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَنْزَرِّجْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَدِيْجَةَ حَتَّىٰ مَاتَتْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔“ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

٩/٢٨٠ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غَرُثْ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا غَرُثْ عَلَى حَدِيْجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے حضرت خدیجہ

٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ٤/١٨٨٩، الرقم: ٢٤٣٦، والحاكم في المستدرك، ٣/٥٢٠، الرقم: ٤٨٥٥، وعبد بن حميد في المسند، ١/٤٢٩، الرقم: ١٤٧٥۔

٩: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ٤/١٨٨٩، الرقم: ٢٤٣٥۔

رضي الله عنها پر رشک کیا ہے کیونکہ حضور نبی اکرم ﷺ ان کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے حالانکہ میں نے ان کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

١٠/٢٨١ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غَرْتُ عَلَى امْرَأٍ مَا غَرْتُ عَلَى  
خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ هَلَكْتُ قَبْلًا أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِشَلَاثٍ سِنِينَ. لِمَا كُنْتُ أُسْمَعُهُ  
يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ بِعَذَابٍ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ  
لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى حَلَائِلِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

”حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پر اس قدر رشک نہیں کیا جس قدر کہ میں نے حضرت خدیجہ رضی الله عنہا پر رشک کیا اور حضرت خدیجہ رضی الله عنہا میری شادی سے تین سال پہلے وفات پا چکی تھیں (اور میں یہ رشک اس وقت کیا کرتی تھی) کہ جب آپ ﷺ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور آپ ﷺ کو آپ کے پروردگار نے حکم فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کو جنت میں خولدار موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری دے دو اور آپ ﷺ جب بھی بکری ذبح کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کی سہیلیوں کو گوشہ بھیجا کرتے تھے۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

١١/٢٨٢ . عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءٍ

١٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ٤/١٨٨٨، الرقم: ٢٤٣٥ -

١١: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب، باب فضل خديجة، ٥/٧٠٢، الرقم: ٣٨٧٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٣٥/٣، الرقم: ١٢٤١٤، وابن حبان في الصحيح، ١٥/٤٦٤، الرقم: ٣/١٧١، والحاكم في المستدرک، ٤٧٤٥، الرقم: ٧٠٠٣ -

الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ.

رواه الترمذی وأحمد وابن حبان. وقال الترمذی: هذا حديث صحيح.

”حضرت انس رض روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے (اتباع و اقتداء کرنے کے) لئے چار عورتیں ہی کافی ہیں۔ مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلید، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔“ اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۲/۲۸۳ . عن عائشةَ قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَ رَبِيعَ بْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ، وَبَعَثَ فِيهِ بِقَلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ أَدْخَلَتُهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرْدُوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْدَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيلَ رَبِيعَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيعَ بْنَ حَارَثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ:

١٢ : أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، ٦٢/٣، الرقم: ٢٦٩٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٢٧٦، الرقم: ٢٦٤٠٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٤٢٨/٢٢،

كُونَا بِبَطْنِ يَاجْجَ حَتَّى تُمَرِّ بَكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَا بَهَا .  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب (بنت رسول اللہ ﷺ) نے بھی ابو العاص کے فدیہ میں مال بھیجا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں (حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے) جہیز میں ملا تھا جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اس ہار کو دیکھا تو فرط غم سے آپ ﷺ کا دل بھرا آیا اور آپ ﷺ پر بڑی رقت طاری ہو گئی فرمایا: اگر تم مناسب سمجھو تو اس (حضرت زینب) کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس (ابو العاص) سے عبد و پیان لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم یاً جح کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تھارے پاس آ پہنچے۔ پس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا۔“ اس حدیث کو امام ابو داود اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٢٨٤/١٣ . عَنْ أَنَسِ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ خَدِيْجَةُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقْرِبُ خَدِيْجَةَ السَّلَامَ . فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِبَهُ .

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

”حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت جبریل ﷺ حضور نبی

اکرم ﷺ کے پاس آئے درآنحالیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس وقت آپ ﷺ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل ﷺ نے کہا: بیشک اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ پر سلام بھیجا ہے اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بیشک سلام اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جبرائیل ﷺ پر سلامتی ہو اور آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔“ اس حدیث کو امام نسائی اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

١٤ / ٢٨٥ . عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَطَّ رَسُولُ اللَّهِ طَهِيرَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَهِيرَتْهُمْ: أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَلِيدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرِيمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَجْمَعِينَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ نے زمین پر چار خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے اور مریم بنت عمران (رضی اللہ عنہن) ہیں۔“

اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: اس حدیث

١٤: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي الْمُسْنَدِ، ٢٩٣/١، الرَّقم: ٢٦٦٨، وَابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيفَةِ، ٤٧٠/١٥، الرَّقم: ٧٠١٠، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكِ، ٢، ٥٣٩، الرَّقم: ٣٨٣٦۔

کی سند صحیح ہے۔

۱۵/۲۸۶ . عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ خَدِيْجَةُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”امام ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسالم پر ایمان لا گئی۔“  
اس حدیث کو امام حاکم نے بیان کیا ہے۔

۱۶/۲۸۷ . عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ: كَانَتْ خَدِيْجَةُ رضي الله عنها أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَقَ بِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”امام ابن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فرض ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون تھیں جو اللہ پر ایمان لا گئیں اور اس کے رسول، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسالم (کے برحق ہونے) کی تصدیق کی۔“

۱۵: أخرجه الحاكم في المستدرك، ۲۰۳/۳، الرقم: ۴۸۴۴ ، والبيهقي في السنن الكبيرى، ۳۶۷/۶، الرقم: ۱۲۸۵۹ ، والدولابي في الدرية الطاهرية، ۱/۳۰، الرقم: ۱۶ -

۱۶: أخرجه الحاكم في المستدرك، ۲۰۳/۳، الرقم: ۴۸۴۵ ، وابن أبي شيبة في المصنف، ۲۴۹/۷، الرقم: ۱۰۹۹ ، وابن عبد البر في التمهيد، ۵۱/۸ ، والذهبى في سير أعلام النبلاء، ۱۱۷/۲ ، والزهري في الطبقات الكبيرى، ۱۸/۸ ، والهيثمي في مجمع الزوائد، ۲۲۰/۹ -

اس حدیث کو امام حاکم اور ابن الیثیہ نے روایت کیا ہے۔

۱۷/۲۸۸ . عَنْ رَبِيعَةِ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ سَابِقَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ .

”حضرت رہیمہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ بیانیؓ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو آپ فرمارہے تھے حضرت خدیجہ بنت خویلہ رضی اللہ عنہا تمام جہاں کی عورتوں سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائیں۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے بیان کیا ہے۔

۱۸/۲۸۹ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ حَدِيْجَةَ أُّشَى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ النَّنَاءَ . قَالَتْ: فَغَرِثُتْ يَوْمًا فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَدْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ عَزَّلَكَ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا . قَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّلَكَ خَيْرًا مِنْهَا: قَدْ آمَنْتُ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتُنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَأَسْتَنِي بِمَا لَهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّلَكَ وَلَدَهَا

۱۷: أخرجه الحاکم في المستدرک، ۲۰۳/۳، الرقم: ۴۸۴۶، والمناوي في فيض القدير، ۴۳۱/۳، والذهبی في سیر اعلام النبلاء، ۱۱۶/۲ -

۱۸: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ۱۱۷/۶، الرقم: ۲۴۹۰۸، والطبراني في المعجم الكبير، ۱۳/۲۳، الرقم: ۲۲، وابن الجوزي في صفوۃ الصفوۃ، ۸/۲، والعسقلاني في الإصابة، ۷/۶۰۴، والذهبی في سیر اعلام النبلاء، ۱۱۷/۲، والهشمي في مجمع الزوائد، ۲۲۴/۹ -

إِذْ حَرَّمَنِي أَوْلَادُ النِّسَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عائشة صديقة رضي الله عنها بيان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضي الله عنها کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آگئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم المبدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدلت عطا نہیں فرمایا وہ تو ایسی خاتون تھیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لا کیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسروں عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔“ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

۱۹/۲۹. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ حَدِيْجَةَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَمُ مِنْ ثَنَاءِ عَلَيْهَا وَالْإِسْتِغْفارِ لَهَا. فَذَكَرَهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَاحْتَمَلَتْنِي الْغِيْرَةُ إِلَى أَنْ قُلْتُ قَدْ عَوَضَكَ اللَّهُ مِنْ كَبِيرَةِ السِّنِّ. قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَضَبَ غَضِيبًا سَقَطَ فِي جِلْدِي، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: أَللَّهُمَّ، إِنَّكَ إِنْ أَذْهَبْتَ عَنِي غَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَذْكُرْهَا بِسُوءٍ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي لَقِيْتُ، قَالَ: كَيْفَ

۱۹: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۲۳/۱۳، الرقم: ۲۱، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ۲/۱۱۲، والدولابي في الذريعة الطاهرة، ۱/۳۱، والهيثمي في مجمع الزوائد، ۹/۴۲۴۔

قُلْتِ؟ وَاللَّهُ، لَقَدْ آمَنْتُ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتُنِي إِذْ كَذَّبَنِي  
النَّاسُ وَرُزِقْتُ مِنِّي الْوَلْدُ إِذْ حُرِمْتُ مِنِّي، فَعَدَا بِهَا عَلَيَّ وَرَاحَ شَهْرًا.  
رواء الطبراني.

"حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما" بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کا ذکر فرماتے تھے تو ان کی تعریف اور ان کے لئے استغفار و دعاۓ مغفرت کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ پس ایک دن آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کا تذکرہ فرمایا تو مجھے غصہ آ گیا یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بڑھیا کے عوض (حسین و جمل) بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ پس میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ شدید جلال میں آ گئے، (یہ صورت حال دیکھ کر) میں نے اپنے دل میں کہا: اے اللہ! اگر آج تو حضور نبی اکرم ﷺ کے غصہ کو ٹھنڈا کر دے تو میں بھی بھی حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کا برے لفظوں میں تذکرہ نہیں کروں گی۔ پس جب حضور نبی اکرم ﷺ نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا: تم ایسا کیسے کہ سکتی ہو؟ حالانکہ، خدا کی قسم! وہ مجھ پر اس وقت ایمان لا میں جب لوگ میری انکار کر رہے تھے اور میری اس وقت تقدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور میری اولاد بھی ان کے بطن سے پیدا ہوئی جبکہ تو اس سے محروم ہے، پس آپ ﷺ ایک ماہ تک اسی حالت (یعنی قدرے ناراضگی کی حالت میں) صبح و شام تشریف لاتے۔"

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٢٩١/٢٠ . عَنْ أَنَّسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ

يَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً حَدِيجَةَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى  
بَيْتِ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ حَدِيجَةَ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.

”حضرت اُنس رضي الله عنه“ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسالم کی خدمت  
قدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسالم فرماتے اس کو فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ  
کیونکہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کو فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ کیونکہ یہ خدیجہ سے محبت  
رکھتی تھی۔“ اس حدیث کو امام بخاری نے ”الادب المفرد“ میں بیان کیا ہے۔

## ۲. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بُنْتِ

أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهمما

﴿ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَنَاقِبِ كَا بِيَانِ ﴾

۲۱/۲۹۲ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا: يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِرْيَلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ. فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتُهُ، تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُتَفَقًّى عَلَيْهِ.

”حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا نے بیان فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عائش! یہ جبراٹل تمہیں سلام کہتا ہے۔ میں نے جواب دیا: ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکات ہوں۔ لیکن آپ (یعنی رسول اللہ ﷺ) جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

۲۱: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل عائشة، ۱۳۷۴/۳، الرقم: ۳۵۵۷، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، ۱۸۹۵/۴، الرقم: ۲۴۴۷، والترمذني في السنن، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في تبليغ السلام، ۵/۵، الرقم: ۲۶۹۳۔

. ٢٢/٢٩٣ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرِينِكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ وَيُقَالُ : هَذِهِ اُمَرَّاتِكَ، فَأَكْشَفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِيهِ. مُتَّسِقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: میں نے خواب میں دو مرتبہ تمہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ سو پرده ہٹا کر دیکھیے، جب میں نے دیکھا تو تم تھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہے گا۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

. ٢٣/٢٩٤ . عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ

٢٢: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ،  
باب تزويع النبي ﷺ عائشة، ١٤١٥/٣، الرقم: ٣٦٨٢  
كتاب النكاح، باب قول الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ١٩٦٩/٥، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، ١٨٨٩/٤، الرقم: ٢٤٣٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤١/٦، الرقم: ٢٤١٨٨ -

٢٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المغارى، باب غزوة ذات السلاسل، ١٥٨٤/٤، الرقم: ٤١٠٠، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر، ١٨٥٦/٤، الرقم: ٢٣٨٤، والترمذى في السنن، كتاب المناقب، باب فضل عائشة، ٣٨٨٥/٧٠٦، الرقم: ٣٨٨٥ -

العاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ. فَعَدَ رِجَالًا فَسَكَثَ مَخَافَةً أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ .  
مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

”حضرت ابو عثمان رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لئے حضرت عمرو بن العاص کو امیر لشکر مقرر فرمایا۔ حضرت عمرو بن العاص رض فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ! آپ کو انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، میں عرض گزار ہوا: مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا والد، میں نے عرض کیا: ان کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دیگر حضرات کے نام لئے لیکن میں اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام آخر میں نہ آئے۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٤٢٩٥ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضِيَّةً. قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ

٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب غيرة النساء وووجههن، ٤/٥، ٢٠٠٤، الرقم: ٤٩٣٠، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، ٤/١٨٩٠، الرقم: ٢٤٣٩ وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٦١، الرقم: ٢٤٣٦٣، وابن حبان في الصحيح، ٤٩/١٦، الرقم: ٧١١٢۔

مُحَمَّدٌ، وَإِذَا كُنْتِ غَصْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلُ  
وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ . مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی کہ یہ بات آپ کس طرح معلوم کر لیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم! اور جب تم خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم! وہ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی: خدا کی قسم! یا رسول اللہ! اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوٹی ہوں۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٩٦ . عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ  
بِهَدَىٰ أَيَّهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِدَلِيلَكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ . مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ لوگ اپنے تھائف حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے (ساتھ آپ ﷺ کے مخصوص کردہ) دن کی تلاش میں رہتے تھے، اور اس عمل سے وہ حضور نبی اکرم ﷺ کی رضا چاہتے تھے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٥ : أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهما، باب قبول الهدية، ٩١٠ / ٢، الرقم: ٢٤٣٥ ، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، ٤ / ١٨٩١ ، الرقم: ٢٤٤١ ، والنسائي في السنن، كتاب عشرة النساء، باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، ٧ / ٦٩ ، الرقم: ٣٩٥١ ، والبيهقي في السنن الكبرى، ٦ / ١٦٩ ، الرقم: ١١٧٢٣ -

الإِجَابَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

٢٩٧/٢٦ . عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيَتَعَدُّ فِي مَرْضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ اسْتِطَاءَ لِيَوْمٍ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ يَقْبَضُهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي. مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (مرض الوصال) میں (میری) باری طلب کرنے کے لیے پوچھتے کہ میں آج کہاں رہوں گا؟ کل میں کہاں رہوں گا؟ پھر جس دن میری باری تھی آپ ﷺ کا سر انور میری گود میں تھا کہ اللہ عزیز نے آپ کی روح مقدسہ قبض کر لی اور میرے گھر میں ہی آپ ﷺ مدفون ہوئے۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٩٨/٢٧ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ﷺ، ٤٨٦ / ١، الرقم: ١٣٢٣، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها، ٤ / ١٨٩٣، الرقم؛ - ٢٤٤٣

٢٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، ٢٠٠٦/٥، الرقم: ٤٩٣٨، ومسلم في الصحيح، كتاب صلاة العيد، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، ٦٠٨/٢، الرقم: ٨٩٢، والنمسائي في السنن، كتاب صلاة العيد، باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك، ١٩٥/٣، الرقم: ١٥٩٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٨٥/٦، الرقم: ٢٤٥٩٦، والطبراني في المعجم الكبير، ١٧٩/٢٣ - الرقم: ٢٨٢.

يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْجَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ  
أَنَا الَّتِي أَسَّمْ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهِ.  
مُتَّقِ عَلَيْهِ.

”حضرت عائشہ رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور جب شی اپنے ہتھیاروں سے لیس رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں کھیل رہے تھے، رسول اللہ ﷺ مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کا کھیل دیکھتی رہوں۔ حضور نبی اکرم ﷺ میری وجہ سے کھڑے رہے ہیاں تک کہ میرا بھی بھر گیا اور میں خود وہاں سے چلی گئی۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ جو لڑکی کم سن اور کھیل کی شائق ہو وہ کب تک دیکھے گی۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٢٩٩/٢٩٩ . عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ. قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُبِيلَ مَوْتَهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ. قَالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُشْيَى عَلَيَّ، فَقِيلَ: ابْنُ عَمِ رَسُولِ اللَّهِ طَهُّرَهُمْ وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ: إِذْنُوا لَهُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينِكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ تَقْيِطُ. قَالَ: فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ طَهُّرَهُمْ وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُرًا غَيْرَكِ وَنَزَلَ عَذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيرِ حِلَافَةً فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاثَنَى عَلَيَّ وَوَدَّدَتْ أَنِي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ.

”امام ابن ابی مليکہ کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی الله عنہما نے

٤٧٦/١٧٧٩، الرقم: ٤٤٧٦ : أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب ولولا إذ سمعتموه،

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اندر آنے کی اجازت مانگی جبکہ وفات سے پہلے وہ عالم نزع میں تھیں۔ انہوں نے فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ یہ میری تعریف کریں گے۔ حاضرین نے کہا: یہ رسول اللہ ﷺ کے چچازاد اور سرکردہ مسلمانوں میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: اچھا انہیں اجازت دے دو۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا: اگر پرہیز گار ہوں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: ان شاء اللہ بہتر ہی رہے گا کیونکہ آپ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا انہوں نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا اور آپ کی براءت آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور آپ نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: حضرت عبد اللہ بن عباس آئے تھے وہ میری تعریف کر رہے تھے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش! میں گمنام ہوتی۔“ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

٢٩/٣٠٠ . عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا تَصَدَّقَتْ بِهِ .  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

”حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایمان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھتیں بلکہ اسی وقت (کھڑے کھڑے) اس کا صدقہ فرمادیتیں۔“

اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

۱/۳۰ . عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ مُصْلِحًا فَارْسِيًّا كَانَ طَيْبَ الْمَرْقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ مُصْلِحًا ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصْلِحًا: لَا، فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصْلِحًا: وَهَذِهِ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصْلِحًا: لَا، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصْلِحًا: وَهَذِهِ، قَالَ: نَعَمْ، فِي الشَّالِثَةِ، فَقَامَ يَتَدَافِعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدٌ.

”حضرت انسؑ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا ایک فارسی پڑوںی بہت اچھا سالن بناتا تھا، پس ایک دن اس نے حضور نبی اکرم ﷺ کیلئے سالن بنایا، پھر آپ ﷺ کو دعوت دینے کیلئے حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اور یہ بھی یعنی عائشہ (بھی) میرے ساتھ مدعو ہے یا نہیں (تو اس نے عرض کیا: نہیں، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں (میں نہیں جاؤں گا) اس شخص نے دوبارہ آپ ﷺ کو دعوت دی تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بھی (یعنی عائشہ) تو اس آدمی نے عرض کیا: نہیں، تو آپ ﷺ نے پھر انکار فرمادیا۔ اس شخص نے سہ بارہ آپ ﷺ کو دعوت دی، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بھی، اس نے عرض کیا: ہاں یہ بھی، پھر دونوں (یعنی آپ ﷺ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) ایک دوسرے کو تھانتے ہوئے اٹھے اور اس شخص کے گھر تشریف لے کر آئے۔“ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٣٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحبباب إذن صاحب الطعام للتابع، ١٦٠٩/٣، الرقم: ٢٠٣٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٢٢٦٥، الرقم: ١٢٣١ -

٣١/٣٠٢ . عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي حِرْقَةِ حَرِيرٍ  
خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ رُوْجُوتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.  
رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت جبریل امین اللہ علیہ السلام ریشم کے سبز کپڑے میں (لیٹی ہوئی) ان کی تصویر لے کر حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ دنیا و آخرت میں آپ کی الہیہ ہیں۔“  
اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے نیز امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

٣٢/٣٠٣ . عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ  
اللهِ ﷺ حَدِيثُ قُطْفَ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.  
رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  
”حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول ﷺ کے لئے جب

٣١: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب من فضل عائشة، ٥/٤٧٠، الرقم: ٣٨٨٠، وابن حبان في الصحيح، ١٦/٦، الرقم: ٩٠٧، وابن راهويه في المسند، ٣/٦٤٩، الرقم: ١٤٠/٢، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ١٤١، ١٢٣٧ -

٣٢: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب من فضل عائشة، ٥/٥٧٠، الرقم: ٣٨٨٣، والذهبی في سیر اعلام النبلاء، ٢/٩١٧، والمذی في تهذیب الکمال، ١٢/٤٢٣، وابن الجوزی في صفوۃ الصفوۃ، ٢/٣٢، والعسقلانی في الإصایة، ٨/١٨ -

کبھی بھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان کے ہاں اس حدیث کا صحیح علم پا لیتے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

٤/٣٠ . عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالحاكِمُ.

”حضرت موسی بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصح نہیں دیکھا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٤/٣٤ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في رواية طولية: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إِنَّهَا (أَيْ عَائِشَةَ) حِبَّةُ أَبِيكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .....  
الحادیث. رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طویل حدیث میں روایت کرتی ہیں کہ

٣٣: أخرجه الترمذی فی السنن، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب من فضل عائشة، ٥/٧٠٥، الرقم: ٣٨٨٤ ، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٣/١٨٢ ، والحاکم في المستدرک، ٤/١٢ ، الرقم: ٦٧٣٥ ، والذهبی في سیر أعلام النبلاء، ٢/٩١ ، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ٢/٨٧٦ ، الرقم: ١٦٤٦ ، والهیشمي في مجمع الزوائد، ٩/٤٣ ، وقال: رجاله رجال الصحيح۔

٣٤: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب في الانتصار، ٤/٢٧٤ ، الرقم: ٤٨٩٨ ، والهیشمي في مجمع الزوائد، ٤/٣٢٢۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: رب کعبہ کی قسم! بے شک عائشہ تمہارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہے۔“  
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔

٣٥/٣٥. عَنْ ذُكْوَانَ حَاجِبِ عَائِشَةَ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ ..... فَقَالَتْ: أَئْذِنْ لَهُ إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَأَدْخُلْهُ فَلَمَّا جَاءَسَ، قَالَ: أَبْشِرِي، فَقَالَتْ: أَيْضًا، فَقَالَ: مَا بَيْنِكِ وَبَيْنِ أَنْ تَلْقَى مُحَمَّدًا طَبَّابَيْمَ وَالْأَحِبَّةِ إِلَّا أَنْ تَهْرُجَ الرُّوحَ مِنَ الْجَسَدِ، كُنْتِ أَحَبَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ طَبَّابَيْمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ طَبَّابَيْمَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ طَبَّابَيْمَ يُحِبُّ إِلَّا طَبِيَّاً وَسَقَطَتْ قِلَادُتُكِ لَيْلَةَ الْأَبْوَاءِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ طَبَّابَيْمَ حَتَّى يُصْبِحَ فِي الْمُنْزِلِ وَأَصْبَحَ النَّاسُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَتَيَّمَمُوا صَعِيدًا طَبِيَّاً فَكَانَ ذَلِكَ فِي سَبِّكِ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الرُّخْصَةِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَ تَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَأَصْبَحَ لَيْسَ اللَّهُ مَسْجِدٌ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ يُذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا يُتَلَّى فِيهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَقَالَتْ: دَعْنِي مِنْكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَوْدِدُثُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا.

٣٥: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢٧٦/١، الرقم: ٢٤٩٦، وابن حبان في الصحيح في الصحيح، ٤١/١٦، ٤٢، الرقم: ٧١٠٨، والطبراني في المعجم الكبير، ٣٢١/١٠، الرقم: ١٠٧٨٣، وأبو يعلى في المسند، ٥٧٦٥/٥، الرقم: ٢٦٤٨۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حَبَّانَ وَأَبُو يَعْلَمِ.

”حضرت ذکوان جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دربان تھے، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی ..... تو آپ نے فرمایا: اگر تم چاہتے ہو تو انہیں اجازت دے دو، راوی بیان کرتے ہیں پھر میں ان کو اندر لے آیا پس جب وہ بیٹھ گئے تو عرض کرنے لگے: اے ام المؤمنین! آپ کو خوشخبری ہو، آپ نے جواباً فرمایا: اور تمہیں بھی خوشخبری ہو، پھر انہوں نے عرض کیا: آپ کی اپنے محبوب حضور نبی اکرم ﷺ سے ملاقات میں سوائے آپ کی روح کے قفس عنصری سے پرواز کرنے کے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ آپ حضور نبی اکرم ﷺ کو تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر عزیز تھیں اور حضور نبی اکرم ﷺ سوائے پاکیزہ چیز کے کسی کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور ابوالواری رات آپ کے لگے کا ہار گرگیا تو حضور نبی اکرم ﷺ صح تک گھرنہ پہنچ اور صحابہ کرام ﷺ نے صح اس حال میں کی کہ ان کے پاس وضو کرنے کیلئے پانی نہیں تھا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت تیم نازل فرمائی ”پس تیم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔“ اور یہ سارا آپ کے سبب ہوا اور یہ جو رخصت اللہ تعالیٰ نے (تیم کی شکل میں) نازل فرمائی (یہ بھی آپ کی بدولت ہوا) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی براءت سات آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی جسے حضرت جبریل امین ﷺ لے کر نازل ہوئے پس اب اللہ تعالیٰ کی مساجد میں سے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے جس میں اس (سورہ براءت) کی رات دن تلاوت نہ ہوتی ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: اے اہن عباس! بس کرو میری اور تعریف نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! مجھے یہ پسند ہے کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی (مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا)۔“

اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔

٣٦/٣٠٧ . عن عائشة، قالت: رأيت رسول الله ﷺ وأضعاً يديه على معرفة فرسٍ وهو يكلم رجلاً، قلت: رأيتك وأضعاً يديك على معرفة فرسٍ دحية الكلبي وأنت تكلمه، قال: ورأيت؟ قالت: نعم قال: ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيراً من صاحب ود خليل، فينعم الصاحب ونعم الدخيل. رواه أحمد.

”حضرت عائشة رضي الله عنها فرمى كه میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا: آپ ﷺ نے گھوڑے کی گردان پر اپنا دست اقدس رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی سے کلام فرم رہے ہیں، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے دحیہ کلبی کے گھوڑے کی گردان پر اپنا دست اقدس رکھا ہوا ہے اور ان سے کلام فرم رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو نے یہ منظر دیکھا؟ آپ نے عرض کیا: ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جبریل عليه السلام تھے اور وہ تھجے سلام پیش کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: اور ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ دوست اور مہمان کو جزاءً خیر عطا فرمائے، پس کتنا ہی اچھا دوست (حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس) اور کتنا ہی اچھا مہمان (حضرت جبریل عليه السلام) ہیں۔“ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

٣٧/٣٠٨ . عن عائشة أنها قالت: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْبَ

٣٦: أخرجه أبو محمد بن حنبل في المسند، ٦/٦٧٤، الرقم: ٢٤٥٦  
٢/٨٧١، الرقم: ١٦٣٥، والجميد في المسند، ١/١٣٣، الرقم:  
٢٧٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٢/٤٦، وابن الجوزي في صفوة  
الصفوة، ٢/٢٠۔

٣٧: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ٦/٤٨، الرقم: ٧١١١، وابن أبي شيبة —

نَفْسٍ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْعُ اللَّهَ لِي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ، اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ فَضَحِكْتُ عَائِشَةَ حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الضِّحْكِ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيْسُرُكِ دُعَائِي ، فَقَالَتْ : وَمَا لِي لَا يُسْرِنِي دُعَاؤُكَ ، فَقَالَ ﷺ : وَاللَّهُ، إِنَّهَا لَدُعَائِي لَأُمْتِي فِي كُلِّ صَلَةٍ . رَوَاهُ ابْنُ حِبْرَانَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو خوشگوار حالت میں دیکھا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرمائیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! عائشہ کے اگلے پچھلے، ظاہری و باطنی، تمام گناہ معاف فرما (ایسا حضور نبی اکرم ﷺ نے ازراء مزاح فرمایا) یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تنا پہنسیں یہاں تک کہ ان کا سر آپ ﷺ کی گود مبارک میں آپڑا (یعنی بھسی سے لوٹ پوٹ ہو گئیں) اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا میری دعائیمہیں اچھی لگی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا مجھے اچھی نہ لگے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! بے شک ہر نماز میں میری یہ دعا میری امت کے لیے خاص ہے۔“

اس حدیث کو امام ابن حبان، ابن ابی شیبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

..... في المصنف، ٣٩٠ / ٦، الرقم: ٣٢٢٨٥، والحاكم في المستدرك، ٤ / ١٣، الرقم: ٦٧٣٨، والدليمي في مسنـد الفردوس، ٤٩٨ / ١، الرقم: ٢٠٣٢، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ١٤٥ / ٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢٤٣ / ٩.

٣٨/٣٠. عن عطاء، قال: كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّاسِ وَأَعْلَمُ النَّاسِ وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأِيًّا فِي الْعَامَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”حضرت عطا بيان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جانتے والیں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عام معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی تھیں۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٩/٣١. عن عروة، قال: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِشِعْرٍ، وَلَا فَرِيْضَةً، وَلَا أَعْلَمَ بِفَقْهٍ مِنْ عَائِشَةَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر، شعر، فرائض اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔“  
اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٤٠/٣١١. عن الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ جُمِعَ عِلْمُ نِسَاءٍ

٣٨: أخرجه الحاکم في المستدرک، ١٥/٤، الرقم: ٦٧٤٨، والذہبی في سیر أعلام النبلاء، ١٨٥/٢، والعسقلانی في تهذیب التهذیب، ٤٦٣/١٢، والمزی في تهذیب الکمال، ٣٥/٢٣٤، وابن عبد البر في الاستیعاب، ٤/١٨٨٣، والعسقلانی في الإصابة، ٨/١٨۔

٣٩: أخرجه ابن ابی شیبہ في المصنف، ٥/٢٧٦، الرقم: ٢٦٠٤٤، والعسقلانی في تهذیب التهذیب، ١٢/٤٦٣، والمزی في تهذیب الکمال، ٣٥/٢٣٤، وابن عبد البر في الاستیعاب، ٤/١٨٨٣، والعسقلانی في الإصابة، ٨/١٨۔

٤٠: أخرجه الطبرانی في المعجم الكبير، ٢٣/١٨٤، الرقم: ٢٩٩۔

هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهِنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ أَكْثَرُ مِنْ عِلْمِهِنَّ .  
رواہ الطبرانی.

”حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس امت کی تمام عورتوں کے جن میں امہات المؤمنین بھی شامل ہوں علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤١/٣١٢ . عن القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةً: مَا رَأَيْتُ خَاطِيْبًا قَطُّ أَبْلَغَ وَلَا أَفْطَنَ مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. رواہ الطبرانی.

”قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے کسی بھی خطیب کو حضرت عائشہ رضي الله عنها سے بڑھ کر بлагافت و فظانت (ذہانت) والا نہیں دیکھا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٤٢/٣١٣ . عن عُرُوَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَعْلَمَ بِالْقُرْآنِ وَلَا بِفَرِيضَةٍ وَلَا بِحَالٍ وَلَا بِشُعُرٍ وَلَا بِحَدِيثِ الْعَرَبِ وَلَا

..... والسعقلاني في تهذيب التهذيب، ١٢ / ٤٦٣ ، والمزي في تهذيب الكمال، ٣٥ / ٢٣٥ ، وابن الجوزي في صفوۃ الصفوۃ، ٢ / ٣٣ ، والخلال في السنة، ٤٧٦ / ٢ ، والذهبی في سیر أعلام البلاء، ٢ / ١٨٥ ، والهیشمی في مجمع الزوائد، ٩ / ٢٤٣ ، وقال: رجال هذا الحديث ثقات۔

٤٤: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢٣ / ١٨٣ ، الرقم: ٢٩٨ ، وابن أبي عاصم في الأحاديث المثنائي، ٥ / ٣٩٨ ، الرقم: ٢٧٠ ، والهیشمی في مجمع الزوائد، ٩ / ٢٤٣ -

٤٥: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ٢ / ٤٩ ، ٥٠ ، وابن الجوزي في صفوۃ الصفوۃ، ٢ / ٣٢ -

بِنَسَبٍ مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. رواه أبو نعيم.

”حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے بڑھ کر کسی کو قرآن، فرائض، حلال و حرام، شعر، عربوں کی باتیں، اور نسب کا عالم نبیین دیکھا۔“ اس حدیث کو امام ابوالنعیم نے روایت کیا ہے۔

٤٣/٤٣١٤ . عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ وَكَانَتْ تَغْشَى عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثْ أُبْنُ الْزُّبُرِ إِلَيْهَا بِمَالٍ فِي غَرَارَتَيْنِ ثَمَانِينَ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَدَعَتْ بِطْبُقٍ وَهِيَ يُوَمِّدُ صَائِمَةً فَجَلَسَتْ تَقْسِيمُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَمْسَتْ وَمَا عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ دِرْهَمٌ فَلَمَّا أَمْسَتْ، قَالَتْ: يَا جَارِيَةُ، هَلْمِي فِطْرِي فَجَاءَتْهَا بِخُبْزٍ وَرَزِّيْتِ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ ذَرَّةَ: أَمَا اسْتَطَعْتِ مِمَّا قَسَمْتِ الْيَوْمَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا لَحْمًا بِدِرْهَمٍ نَفْطُرُ عَلَيْهِ، قَالَتْ: لَا تُعَفِّنِي، لَوْ كُنْتِ ذَكْرُتِينِي لَفَعَلْتُ . رواه أبو نعيم وابن سعد۔

”حضرت ام ذرہ، جو کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی خادمہ تھیں، بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دو تھیلوں میں آپ کو اسی ہزار یا ایک لاکھ کی مالیت کا مال بھیجا، آپ نے (مال رکھنے کے لئے) ایک تھال مانگوایا اور آپ اس دن روزے سے تھیں، آپ وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لئے بیٹھ گئیں، پس شام تک اس مال میں سے آپ کے پاس ایک درہم بھی نہ بچا، جب شام ہو گئی تو آپ نے فرمایا: اے لڑکی! میرے افطار کیلئے کچھ لاو، وہ لڑکی ایک روٹی اور تھوڑا سا گھنی لے کر حاضر ہوئی، پس ام

٤: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ٤/٢، وهناد في الزهد، ١/٣٣٧،

٣٣٨، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٨/٦٧، والذهباني في سير

أعلام النبلاء، ٢/١٨٧ -

ذرہ نے عرض کیا: کیا آپ نے جو مال آج تقسیم کیا ہے اس میں سے ہمارے لیے ایک درہم کا گوشت نہیں خرید سکتی تھیں جس سے آج ہم اظمار کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اب میرے ساتھ اس لبجھ میں بات نہ کرو، اگر اس وقت (جب میں مال تقسیم کر رہی تھی) تو نے مجھے یاد کرایا ہوتا تو شاید میں ایسا کر لیتی۔“

اس حدیث کو امام ابویعیم اور ابن سعد نے روایت کیا ہے۔

٤٤ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ أَجْوَدَ مِنْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَجُوْدُهُمَا مَخْتَلِفٌ: أَمَّا عَائِشَةُ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسْمَتْ وَأَمَّا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدِ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.

”حضرت عبد اللہ بن زیبر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی اور دونوں کی سخاوت میں فرق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی تھوڑی اشیاء جمع فرماتی رہتی تھیں اور جب کافی ساری اشیاء آپ کے پاس جمع ہو جاتیں تو آپ انہیں (غربا اور محتاجوں میں) تقسیم فرمادیتیں، جبکہ حضرت اسماء اپنے پاس کل کے لیے بھی کوئی چیز نہیں بچا رکھتی تھیں۔“ اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے۔

٤٥ . عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَعْثُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عَائِشَةَ بِطَرْوَقٍ مِنْ

٤٤: أخرجه البخاري في الأدب المفرد/٦، ١٠٦، الرقم: ٢٨٦، وابن الجوزي في صفة الصفوة، ٢/٥٨، ٥٩۔

٤٥: أخرجه هناد في الزهد، ١/٣٣٧، ٦١٨، الرقم: ٦١٨، وابن الجوزي في صفة الصفوة، ٢/٢٩۔

ذَهَبٌ فِيهِ جَوَهْرٌ قُومٌ بِمِائَةِ الْفِي، فَقَسَّمَتُهُ بَيْنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.

رَوَاهُ هُنَادٌ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ.

”حضرت عطاء سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سونے کا ہار بھیجا جس میں ایک ایسا جو ہر لگا ہوا تھا جس کی قیمت ایک لاکھ درهم تھی، پس آپ نے وہ قیمتی ہار تمام امہات المومنین میں تقسیم فرمادیا۔“

اس حدیث کو امام ہناد اور ابن الجوزی نے روایت کیا ہے۔

٤٦/٣١٧ . عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، كَانَتْ تَسْرَدُ الصَّوْمَ .  
وَعَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا تَفُطِّرُ إِلَّا يَوْمَ أَضْحَى  
أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ .

وفي رواية عنه: قال: كُنْتُ إِذَا غَدَوْتُ أَبُدًا بِيَتِ عَائِشَةَ أَسَلَّمْ  
عَلَيْهَا، فَغَدَوْتُ يَوْمًا فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَسْبِحُ وَتَقْرَأُ: ﴿فَمَنْ أَنْهَا  
وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ وَتَدْعُو وَتَبَكِي وَتَرْدِدُهَا فَقُمْتُ حَتَّى مَلَّتُ  
الْقِيَامَ فَذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ لِحَاجَتِي ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ  
تُصَلِّي وَتَبَكِي. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَاللَّفْظُ لَهُ.

”حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسلسل روزے سے ہوتی تھیں۔ اور قاسم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ مسلسل روزہ سے ہوتی تھیں اور

٤٦: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٢/٥١، ٤٠٤٨، الرقم: ٤٠٤٨، والبيهقي  
في شعب الإيمان، ٢/٣٧٥، ٢٠٩٢، الرقم: ٢٠٩٢، وابن أبي عاصم في  
كتاب الزهد، ١/١٦٤، وابن الجوزي في صفوۃ الصفوۃ، ٢/٣١۔

صرف عید الاضحی اور عید الفطر کو افطار فرماتی تھیں۔

اور ان ہی سے روایت ہے کہ میں صبح کو جب گھر سے روانہ ہوتا تو سب سے پہلے سلام کرنے کی غرض سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتا، پس ایک صبح میں آپ کے گھر گیا تو آپ حالت قیام میں شیخ فرمائی تھیں اور یہ آیہ کریمہ پڑھ رہی تھیں ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ﴾ اور دعا کرتی اور روتنی جا رہی تھیں اور اس آیت کو بار بار دھرا رہی تھیں، پس میں (انتظار کی خاطر) کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ میں کھڑا ہو ہو کر اکتا گیا اور اپنے کام کی غرض سے بازار چلا گیا، پھر میں والپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں کھڑی نماز ادا کر رہیں ہیں اور مسلسل روئے جا رہی ہیں۔“

اس حدیث کو امام عبد الرزاق، امام بنی ہاشمی اور ابن جوزی نے روایت کیا ہے یہ الفاظ ابن جوزی کے ہیں۔

## ٣. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ بِنْتِ

**عُمَرَ رضي الله عنهم**

﴿ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ رضي الله عنهم﴾

٤٧/٣١٨ . عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتِينِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اسْتَهِيَّاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ وَكَانَتْ ابْنَةً أَيُّهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتِينِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اسْتَهِيَّاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ . قَالَ: افْضِلَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانًا .  
رواه الترمذی والنسائي وأحمد.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور حفصہ روزے سے تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں طلب بھی تھی ہم نے اس سے کھالیا اتنے میں حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لے آئے، حضرت حفصہ گفتگو میں مجھ سے سبقت لے گئی اور (ایسا کیوں نہ ہوتا) وہ اپنے باپ کی بیٹی تھیں (یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح جری تھیں) کہنے لگیں: یا رسول اللہ! ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا پھر ہمارے پاس

٤٧: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب الصوم، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، ١١٢/٣، الرقم: ٧٣٥، والنسائي في السنن الكبرى، ٢٤٧، الرقم: ٣٢٩١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢٦٣/٦، الرقم: ٢٦٣١٠، وأبو يعلى في المسند، ١٠١/٨، الرقم: ٤٦٣٩، وابن راهويه في المسند، ٣٥٣/٢، الرقم: ٨٨٥۔

کھانا آیا جس کی ہمیں تھنا تھی تو ہم نے اس سے کھالیا، آپ ﷺ نے فرمایا: کسی دوسرے دون اس کی قضاء کر لینا۔“ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٤٨/٣١٩ . عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالَاهَا قُدَّامَةً وَعُشَمَانَ ابْنَانَ مَظْعُونٍ فَبَكَثُ وَقَالَتْ : وَاللَّهِ، مَا طَلَقْنِي عَنْ شَيْءٍ وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : قَالَ لِي جِبْرِيلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : رَاجِعٌ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجُكَ فِي الْجَنَّةِ .

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ .

”حضرت قیس بن زید ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت خصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کو طلاق دی، پس آپ کے ماموں قدامہ اور عثمان جو کہ مظلومون کے بیٹے ہیں آپ کو ملنے آئے تو آپ روپڑیں اور کہا: خدا کی قسم! حضور نبی اکرم ﷺ ادھر نے مجھے غصہ اور غصب کی وجہ سے طلاق نہیں دی، اسی دوران حضور نبی اکرم ﷺ اور تشریف لائے اور فرمایا: جبریل ﷺ نے مجھے کہا ہے: ”آپ خصہ کی طرف رجوع کر لیں۔ بے شک وہ بہت زیادہ روزے رکھنے اور قیام کرنے والی ہیں اور بے شک وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔“

اس حدیث کو امام حاکم، طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

٤٨: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/٦، الرقم: ٦٧٥٣، والطبراني في المعجم الكبير، ١٨/٣٦٥، الرقم: ٩٣٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٢/٥٠، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٨٤/٨، والعسقلاني في الإصابة، ٥٥٩/٥، الرقم: ٧٣٥٦، والحارث في المسند (زوائد الهيثمي)، ٩١٤/٢، الرقم: ١٠٠٠ -

٤٩/٣٢٠ . عن أنسٍ، قال: قال النبي ﷺ: يا حفصة، أتاني جبريلٌ آنفًا فقال: فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة.  
رواوه الطبراني والمقدسي.

”حضرت أنس رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے خصہ! ابھی جبرايل صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا: بے شک وہ (حضرت خصہ) بہت زیادہ روزے دار اور قیام کرنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔“  
اس حدیث کو امام طبرانی اور مقدسی نے روایت کیا ہے۔

---

٤٩: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥٥/١، الرقم: ١٥١  
والقدسی في الأحادیث المختارۃ، ٩٤/٧، الرقم: ٢٥٠٧  
والهیشمي في مجمع الزوائد، ٢٤٤/٩

## ٤. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها کے مناقب کا بیان﴾

٥٠/٣٢١ . عَنْ أَبِي عُشَمَةَ، قَالَ: أُبَيْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَتَى  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمِّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ قَالَتْ أُمِّ سَلَمَةَ: إِيمُ اللَّهِ، مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ عَنْ  
جِبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُشَمَةَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ  
أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . مُتَقَّدٌ عَلَيْهِ .

”حضرت ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت جبریل ﷺ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضي الله عنها آپ ﷺ کے پاس موجود تھیں، پس وہ آپ ﷺ سے گفتگو کرتے رہے پھر چلے گئے، حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضي الله عنها سے دریافت فرمایا: یہ کون تھے؟ یا جو کچھ بھی آپ ﷺ نے فرمایا: انہوں نے جواب دیا کہ دیجیہ تھے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے انہیں دیجیہ کلبی ہی سمجھا تھا، لیکن میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے

---

٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ١٣٣٠ / ٣، الرقم: ٣٤٣٥، وفي كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي، ١٩٠٥ / ٤، الرقم: ٤٦٩٥، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سلمة، ٤ / ١٩٠٦، الرقم: ٢٤٥١، والبزار في المسند، ٥٥ / ٧، الرقم: ٢٦٠٦ -

## الإِحَاجَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

دوران خطبہ بتایا کہ وہ حضرت جبرایل تھے، یا جو کچھ بھی آپ ﷺ نے فرمایا، عمر کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعنان سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کس سے سنا ہے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اسامہ بن زید ﷺ سے، ”یہ حدیث متفق علیہ ہے۔“

٥١/٣٢٢      عنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِيِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدْ.

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان سے نکاح کرنے کے بعد ان کے پاس تین دن رہے پھر فرمایا: تمہاری اہمیت اور چاہت اپنے شوہر کی نظروں میں ہرگز کم نہیں ہوئی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس ایک ہفتہ قیام کر لوں اور اگر میں تمہارے پاس ایک ہفتہ رہا تو میں اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ایک ہفتہ رہوں گا۔“ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔

٥٢/٣٢٣      عنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِي بَيْتِهَا

٥١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والشيب من إقامة الزوج عندها عقب الرفاف، ٢/١٠٨٣، الرقم: ١٤٦٠، وأبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب في المقام عند البكر، ٢٤٠/٢، الرقم: ٢١٢٢، والدارمي في السنن، ٢/١٩٤، الرقم: ٢٢١٠، وابن حبان في الصحيح، ١٠/١٠، الرقم: ٤٢١٠۔

٥٢: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٧٠، الرقم: ٣٢١٠٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٢٩٦، الرقم: ٢٦٥٨٢، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٣/٣٩٣، الرقم: ٩٣٩، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/١٦٦۔

ذَاتَ يَوْمٍ فَجَاءَتِ الْخَادِمُ، فَقَالَتْ: عَلَيٰ وَفَاطِمَةُ بِالسَّدَّةِ، فَقَالَ: تَنْحِي  
لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي فَسَحَّتْ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ عَلَيْيَ، وَفَاطِمَةُ،  
وَحَسَنُ، وَحُسَيْنُ فَوَضَعُهُمَا فِي حِجْرِهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ بِإِحْدَى يَدَيْهِ فَضَمَّهُ  
إِلَيْهِ وَأَخَذَ فَاطِمَةَ بِالْيَدِ الْأُخْرَى فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَقَبَّلَهُمَا وَأَعْدَفَ عَلَيْهِمْ  
خَمِيسَةً سَوْدَاءً ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ، أَنَا، وَأَهْلُ بَيْتِي،  
قَالَتْ: فَنَادَيْتُهُ، فَقُلْتُ: وَأَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَأَنْتِ.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شِيهَةَ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ ایک دن ان  
کے پاس ان کے گھر تشریف فرماتھے پس خادم آیا اور عرض کیا: حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ  
عنہما (گھر کی) دلیل پر کھڑے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: میرے لئے میرے گھر والوں  
کے راستے سے ہٹ جایا کرو (یعنی ان کو بلا اجازت گھر آنے دیا کرو) پس وہ خادم گھر  
کے ایک کونے میں چلا گیا، پس حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین ﷺ اندر  
تشریف لائے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے نواسوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور اپنا ایک  
دست مبارک حضرت علی ﷺ پر رکھا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنا دوسرا دست اقدس  
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر رکھا اور انہیں بھی اپنے ساتھ ملایا اور ان دونوں کو چوہا اور پھر ان  
سب پر اپنی کالی کملی بچھا دی پھر فرمایا: اے اللہ! تیری طرف نہ کہ آگ کی طرف، میں اور  
میرے اہل بیت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے آپ ﷺ کو پکار کر عرض  
کیا: اور میں بھی یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: ہا تم بھی۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

## ٥. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ

أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما

﴿ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها کے مناقب کا بیان ﴾

٤/٣٢ . عنْ أُمِّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى اثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةً بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى.

”ام المؤمنين حضرت ام حبيبة رضي الله عنها بيان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو فرماتے ہوئے سن ا جو مسلمان بندہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے لئے بارہ رکعات انقل پڑھے گا اس کے لئے ان کے بدله میں جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ حضرت ام حبيبة رضي الله عنها فرماتی ہیں میں نے اس دن کے بعد کبھی بھی یہ بارہ رکعات ترک نہیں کیں۔“

اس حدیث کو امام مسلم، ابن خزیمہ اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔

٥: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراية قبل الفرائض وبعدهن وبيان عدهن، ١/٢٥، الرقم: ٧٢٨، وابن خزيمة في الصحيح، ٢/٣٠، الرقم: ١١٨٧، وأبو يعلى في المسند، ٤٤/١٣، الرقم: ٧١٢٤، وابن راهويه في المسند، ١/٢٣٣ -

٣٢٥/٥٤ . عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوْجُ امَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفِيَّانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدَ .

”امام زہری بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی شادی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار ہزار درہم حق مهر پر کی اور اس کی خبر بذریعہ خط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قول فرمایا“  
اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔

٣٢٦/٥٥ . عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو سُفِيَّانَ بْنَ حَرْبٍ الْمَدِينَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوَةً مَكَّةَ فَكَلَمَهُ أَنْ يُرِيدُ فِي هَدْنَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَلَمْ يَقْبِلْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أَمْ حَبِيبَةَ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوْتُهُ دُونَهُ، فَقَالَ: يَا بُنْيَةُ، أَرَغَبْتِ بِهَذَا الْفِرَاشَ عَنِّي أَوْ بِي عَنْهُ، فَقَالَتْ: بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَنْتَ امْرُؤٌ نَجْسٌ مُشْرِكٌ، فَقَالَ: يَا بُنْيَةُ، لَقَدْ أَصَابَكِ بَعْدِي شَرٌّ . رَوَاهُ أَبُنُ سَعْدٍ .

٤: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب الصداق، ٢٣٥/٢،  
الرقم: ٢١٠٨، والشوكتاني في نيل الأوطار، ٣١٣/٦ -

٥٥: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ١٠٠/٨، والذهباني في سير  
أعلام النبلاء، ٢٢٣/٢، وابن الجوزي في صفوۃ الصوۃ، ٤٦/٢،  
والعسقلاني في الإصابة، ٦٥٣/٧ -

”امام زہری بیان کرتے ہیں کہ جب ابوسفیان بن حرب مدینہ آیا تو وہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں بھی حاضر ہوا جبکہ آپ ﷺ کہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابوسفیان نے حضور نبی اکرم ﷺ سے صلح حدیبیہ کے معاملہ میں توسعہ کے لئے گزارش کی لیکن حضور نبی اکرم ﷺ نے انکار فرمادیا، پس وہ کھڑا ہوا اور اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا لیکن جب وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے بستر پر بیٹھنے کے لئے بڑھا تو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ بستر لپیٹ دیا۔ اس نے کہا: اے میری بیٹی! کیا تو اس بستر کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہے یا میری وجہ سے اس بستر سے؟ انہوں نے کہا: یہ حضور نبی اکرم ﷺ کا بستر ہے اور تم ایک بخس اور مشرک انسان ہو (یہ سن کر) اس نے کہا: اے میری بیٹی! البتہ میرے بعد تم شر میں مبتلا ہو گئی ہو،“

اس حدیث کو امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔

## ٦. فَصْلٌ فِي مُنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةَ بُنْتِ

رَمَعَةَ رضي الله عنها

### ﴿ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَسْرَتْ سُودَةَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبَ كَا بِيَان﴾

٥٦ / ٣٢٧ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اسْفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يُقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بُنْتَ زَمَعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبَغَّى بِذَالِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ البَخَارِيُّ وَأَبُو دَاؤِدَ .

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازدواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے کہ آپ ﷺ کے ساتھ جانے کے لیے کس کے نام قرعہ نکلتا ہے اور آپ ﷺ نے ان کے درمیان ایک رات دن کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی، مساوئے اس کے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ نے اپنی باری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنہا کو دی ہوئی تھی اور اس سے ان کا مقصد حضور نبی اکرم ﷺ

٥٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الهببة وفضلهما، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، ١٨١/١، الرقم: ٢٤٥٣، وفي كتاب الشهادات، باب في المشكلات، ٩٥٥/٢، الرقم: ٢٥٤٢، وأبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء ٢٤٣/٢، الرقم: ٢١٣٨، والنسائي في السنن الكبيرى، ٢٩٢/٥، الرقم: ٨٩٢٣ .-

کی رضامندی تھی۔“ اس حدیث کو امام بخاری اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔

٥٧/٣٢٨ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيْيَ أَكُونَ فِي مِسْلَاخَهَا مِنْ سَوْدَةِ بَنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةً قَالَتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتَ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمِيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا عزیز تھیں، میری تمنا تھی کہ کاش میں ان کے جسم میں ہوتی، حضرت سودہ بنت زمعہ کے مزان میں تیزی تھی، جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے اپنے دن کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنی باری عائشہ کو دے دی ہے، پھر رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت عائشہ کے ہاں دو دن رہتے تھے، ایک دن حضرت عائشہ کی باری کا اور ایک دن حضرت سودہ کی باری کا۔“

اس حدیث کو امام مسلم،نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

٥٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضريتها، ٢/١٠٨٥، الرقم: ١٤٦٣، والنمسائي في السنن الكبرى، ٥/٣٠١، الرقم: ٨٩٣٤، وابن حبان في الصحيح، ١٠/١٢، الرقم: ٤٢١١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/٧٤، الرقم: ١٣٢١١ -

## ٧. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ بْنَتِ

### جَحْشٌ رضي الله عنها

﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ زَيْنَبَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾

٥٨/٣٢٩ . عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكْرَ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ بْنَتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ الْبَيِّنَاتِ لِشَفَاعَتِهِمْ أَوْ لَمْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْ لَمْ بِشَاةٍ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت ثابت کا بیان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زوجہ مطہرہ کا ان کے ولیمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک بکری کے ساتھ ولیمہ کیا۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

٥٩/٣٣ . عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ

٥٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة،  
٥/١٩٨٣، الرقم: ٤٨٧٦، ومسلم في الصحيح، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، ٢/٤٩، ١٠، الرقم: ١٤٢٨، وأبو داود في السنن، كتاب الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح، ٣/٣٤١، الرقم: ٣٧٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧، ٢٥٨/٧ -  
الرقم: ١٤٢٧٧ -

٥٩: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، ٦/٢٧٠٠، الرقم: ٦٩٨٥ -

يَقُولُ : نَزَّلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ حُبْزًا وَلَحْمًا ، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

”امام عیسیٰ بن طہمان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ پردے کی آیت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل ہوئی اور ان کے ولیمہ میں آپ ﷺ نے روٹی اور گوشت کھلایا اور یہ (حضرت زینب رضی اللہ عنہا) حضور نبی اکرم ﷺ کی باقی ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی اور کہا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمان پر کیا ہے۔“ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

٦٠ / ٣٣١ . عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ : زَوْجُكُنَّ أَهَالِيْكُنَّ وَزَوْجَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فُوقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

”حضرت انس ﷺ سے مردی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضور نبی اکرم ﷺ کی تمام ازواج مطہرات سے فخر یہ کہا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر کیا۔“

اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

٦: آخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التوحيد، باب و كان عرشه على الماء، ٢٦٩٩/٦، الرقم: ٦٩٨٤، والنسائي في السنن الكبرى مختصرًا، ٢٩١/٥، الرقم: ٨٩١٨ -

٦١/٣٣٢ . عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِأَطْوَلِكُنَّ يَدًا، قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلُنَّ أَيْتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبٌ لَأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدِّقُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ.

”ام المؤمنين حضرت عائشة رضي الله عنها بيان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (میری وفات کے بعد جنت میں) تم سب سے زیادہ جلد وہ بیوی ملے گی، جس کے ہاتھ تم سب میں سے زیادہ لمبے ہوں گے، حضرت عائشہ رضي الله عنها فرماتی ہیں پھر ہم سب اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب رضي الله عنها کے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتی تھیں اور صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں،“ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

٦٢/٣٣٣ . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في روایة طويلة: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجَ الْبَيِّنَاتِ زَيْنَبَ بْنَتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْهُنَّ فِي الْمُنْزَلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَرْ اُمْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتَقَى اللَّهَ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأُوصَلَ لِلرَّحْمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِدَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ،

٦١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب أم المؤمنين، ٤ / ١٩٠٧، الرقم: ٢٤٥٢، وابن حبان في الصحيح، ١٥ / ٥٠، الرقم: ٦٦٦٥ -

٦٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، ٤ / ١٨٩١، الرقم: ٢٤٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧ / ٢٩٩، الرقم: ١٤٥٢ -

وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، مَا عَدَّا سُورَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طویل حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات نے آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو آپ کے پاس بھیجا اور وہی حضور نبی اکرم ﷺ کے نزدیک مرتبہ میں میرے برابر تھیں اور میں نے حضرت زینب سے زیادہ دیندار، اللہ سے ڈرنے والی، پچ بات کہنے والی، صدر حجی کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی، اور نہ ان سے زیادہ تواضع کرنے والی کوئی عورت دیکھی ہے، اس عمل میں جس کے ذریعے وہ صدقہ کرتیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتیں تھیں، البتہ وہ زبان کی تیز تھیں لیکن اس سے بھی وہ بہت جلد رجوع کر لیتی تھیں۔“ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

٤/٣٣٤ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشَ أَوَّاهَةً، قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْأَوَّاهَةُ؟ قَالَ: الْخَاشِعَةُ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْذَّهَبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ.

”حضرت عبد اللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمر ﷺ سے فرمایا: بے شک زینب بنت جحش ”اوآہہ“ ہے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اوآہہ کا کیا مطلب ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: خاشعہ (خشوع و خضوع کرنے والی)۔“ اس حدیث کو امام ابو نعیم، ابن عبد البر اور ذہبی نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ذہبی کے ہیں۔

٦٣ : أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ٥٤/٢، وابن عبد البر في الاستيعاب، ٤/١٨٥٢، الرقم: ٣٣٥٥، والذهببي في سير أعلام النبلاء، ٢/٢١٧ -

## ٨. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ

### الْحَارِثِ رضي الله عنها

﴿ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾

٦٤/٣٣٥ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَخْوَاتُ مُؤْمِنَاتٍ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْتُهَا اُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَأَخْتُهَا سَلْمَى بِنْتُ الْحَارِثِ اُمْرَاءَ حَمْزَةَ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمِيْسٍ أُخْتُهُنَّ لِأُمَّهِنَّ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

”حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ببيان كرتة بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: تمام مومن عورتیں آپ میں بھینیں ہیں (پھر فرمایا) ام المؤمنین میمونہ، اس کی بہن ام فضل بنت حارث، اور اس کی بہن سلمی بنت حارث حمزہ کی بیوی اور اسماء بنت عمیس ان کی اخیانی بہن ہے۔“

اس حدیث کو امام نسائی، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے الفاظ امام حاکم کے ہیں اور آپ نے فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

٦٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/٣٥، الرقم: ٦٨٠١، والنسياني في السنن الكبرى، ٥/١٠٣، الرقم: ٨٣٨٧، والطبراني في المعجم الكبير، ١١/٤١٥، الرقم: ١٢١٧٨، والهشمي في مجمع الزوائد،

## ٩. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بُنْتِ

### الْحَارِثِ رضي الله عنها

﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ جُويْرِيَةَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبِ كَا بِيَان﴾

٦٥/٣٣٦. عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةً. فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَلَّا النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوْزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدُ خَلْقِهِ، وَرِضا نَفْسِهِ، وَزِنَةُ عَرْشِهِ، وَمِدَادُ كَلِمَاتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجِهِ وَالنَّسَائِيُّ.

”حضرت جويريه رضي الله عنها بيان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نماز فجر پڑھنے کے بعد علی اصح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھی تھیں، پھر آپ ﷺ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی تھیں۔ آپ ﷺ نے

٦٥: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، ٢٠٩٠ / ٤، الرقم: ٢٧٢٦، وابن ماجه في السنن، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح، ١٢٥١ / ٢، الرقم: ٣٨٠٨، والنمسائي في السنن الكبرى، ٤٨ / ٦، الرقم: ٩٩٨٩، وابن حبان في الصحيح، ١١٠ / ٣، الرقم:

فرمایا: جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو، حضرت جویریہ نے عرض کیا: جی ہاں! حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہارے بعد چار ایسے کلمات تین بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صحیح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہو گا: وہ کلمات یہ ہیں: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدُ خَلْقِهِ، وَرِضاً نَفْسِهِ، وَزِنَةُ عَرْشِهِ، وَمَدَادُ كَلْمَاتِهِ﴾ "اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، اس کی مخلوق کے عدد اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔" اس حدیث کو امام مسلم، ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

٦٦/٣٣٧ . عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةً، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدٌ.

"حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت جویریہ کا نام پہلے بڑھ تھا، آپ ﷺ نے ان کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا، آپ ﷺ اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑھ (نیک) کے پاس سے نکل گیا۔"

اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔

٦٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، ١٦٨٧/٣، الرقم: ٢١٤٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣١٦/١، الرقم: ٢٩٠٢، والبيهقي في شعب الإيمان، ٤٢٤، الرقم: ٤٠٤ -

## ١٠. فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بُنْتِ

**حُسَيْنِ بْنِ أَخْطَبَ** رضي الله عنها

﴿أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتْ صَفِيَّةَ رضي الله عنها كَمَنَاقِبَ كَا بِيَان﴾

٦٧/٣٣٨ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَافَهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

”حضرت أنس بن مالك ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت صفیہ کو رہا فرمایا اور ان کی رہائی کو ان کا حق مہر بنایا۔“ یہ حدیث متقد علیہ ہے۔

٦٨/٣٣٩ . عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: بُنْتُ يَهُودِيٍّ، فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُّبَكِّيكِ؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي بُنْتُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

٦٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، ١٩٥٦/٥، الرقم: ٤٧٩٨، ومسلم في الصحيح، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، ٤٥/١٠، الرقم: ١٣٦٥، وعبد الرزاق في المصنف، ٢٦٩/٧، الرقم: ١٣١٠٧ -

٦٨: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب المناقب عن رسول الله، باب فضل أزواج النبي ﷺ، ٩/٥، الرقم: ٣٨٩٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٣٥، الرقم: ١٢٤١٥، والمباركفورى في تحفة الأحوذى، ١٠/٢٦٨ -

إِنَّكَ لَابْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكَ لَنَبِيٍّ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْخُرُ  
عَلَيْكِ، ثُمَّ قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا حَفْصَةُ.

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی الله عنہا کو پتہ چلا کہ حضرت حفصہ رضی الله عنہا نے انہیں یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ وہ روپڑیں اتنے میں ان کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ روہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا: حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارے بچا بھی ہیں اور تم نبی کی بیوی ہو۔ پس وہ کس بات میں تم پر خخر کرتی ہیں۔ پھر فرمایا: حفصہ! اللہ تعالیٰ سے ڈرو (اور اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو)۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

٦٩/٣٤ . عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّيٍّ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلَامًا فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِهُ فَقَالَ:  
اَلَا قُلْتِ: فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدًا وَأَبِي هَارُونَ وَعَمِي  
مُوسَى..... الحدیث. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالحاكِمُ.

٦: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب المناقب عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضل أزواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ٧٠٨/٥، الرقم: ٣٨٩٢، والطبراني في المجم الأوسط، ٢٣٦/٨، الرقم: ٨٥٠٣، وفي المعجم الكبير، ٧٥/٢٤، الرقم: ١٩٦، والحاكم في المستدرک، ٣١/٤، الرقم:

”حضرت صفیہ بنت حسین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے حضرت خصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک بات پہنچی تھی۔ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم دونوں مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو جبکہ میرے شوہر حضرت محمد ﷺ، میرے باپ حضرت ہارون ﷺ، اور میرے چچا حضرت موسیٰ ﷺ ہیں۔“ اسے امام ترمذی، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٤١ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ صَفِيَّةً مِنَ الصَّفِيِّ .

روأه أبو داؤد وابن حبان.

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صفیہ مال غنیمت کا وہ حصہ ہیں جنہیں آقا ﷺ نے اپنے لئے منتخب فرمایا۔“

اسے امام ابو داود اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

٧: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي، ١٥٢/٣، الرقم: ٢٩٩٤، وابن حبان في الصحيح، ١٥١/١١، الرقم: ٤٨٢٢، والحاكم في المستدرك، ٤٢/٣، الرقم: ٤٣٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣٠٤/٦، الرقم:

## الْبَابُ السَّادِسُ:

مَنَاقِبُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ الْكَفَافُ  
﴿امام محمد مهدی ﴾ع ع کے مناقب﴾



## ١. فَصْلٌ فِي كَوْنِهِ الْعَلِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

﴿ سیدنا امام مہدی ﷺ کا اہل بیت اطہار میں سے ہونے کا بیان ﴾

۱/۳۴۲ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِلنَّاسِ: لَا تَذَهَّبُ  
الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ اسْمُهُ اسْمِي .  
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا  
باڈشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق (عنی محمد ہو گا)۔“

اسے امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث  
حسن صحیح ہے۔

۲/۳۴۳ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالـ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ

۱: أخرجه الترمذی في السنن، كتاب الفتنة، باب ما جاء في المهدی،  
٤/٥٠٥، الرقم: ٢٢٣٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٣٧٦،  
الرقم: ٣٥٧١، والبزار في المسند، ٥/٢٠٤، الرقم: ١٨٠٣  
والحاكم في المستدرک، ٤/٤٨٨، الرقم: ٨٣٦٤۔

۲: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب المهدی، ٤/١٠٧، الرقم:  
٤٢٨٤، وابن ماجه في السنن، كتاب الفتنة، باب خروج المهدی،  
٢/١٣٦٨، الرقم: ٤٠٨٦، والديلمي في مستند الفردوس، ٤/٢٢٣  
الرقم: ٦٦٧٠۔

**يَقُولُ: الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.** رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ.  
 ”ام المؤمنين حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سن: مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہو گا۔“  
 اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

**٤/٣٤٣. عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ كَمَا سَيِّخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُ فِي الْخُلُقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمْلُأُ الْأَرْضَ عَدْلًا.** رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

”حضرت ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے اپنے بیٹے حضرت حسنؑ کو دیکھا اور فرمایا: میرا یہ بیٹا سردار ہو گا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام رکھا ہے اور عقریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہو گا اور اس کا نام تمہارے نبی کے نام کے موافق رکھا جائے گا اور سیرت میں بھی آپ ﷺ سے مشابہ ہو گا۔ مگر صورت میں مشابہ نہ ہو گا۔ پھر حضرت علیؑ نے واقعہ بیان فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہو گا جو زمین کو عدل سے بھردے گا۔“ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

**٤/٣٤٥. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْمَهْدِيُّ مِنَ**

٣: آخرجه أبو داود في السنن، كتاب المهدى، ٤/٨٠، الرقم: ٤٢٩٠۔

٤: آخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الفتنة، باب خروج المهدى، ٢/١٣٦٧، الرقم: ٤٠٨٥، وأحمد بن حببل في المسند، ١/٨٤، الرقم: ٦٤٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٥١٣، الرقم: ٣٧٦٤٤، الرقم: ٦٤٤ -

والبزار في المسند، ٢/٤٣، الرقم: ٦٤٤ -

أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مہدی ہم میں سے ہو گا۔ یعنی اہل بیت میں سے، اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں (خلافت و مہدیت کی) صلاحیت عطا فرمادے گا۔“

اس حدیث کو امام ابن ماجہ، احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٦/٣٤٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ يَقُولُ: نَحْنُ وَلَدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلَيُّ وَجَعْفُرُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

”حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خود فرماتے سنا ہے کہ ہم حضرت عبدالمطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ یعنی میں حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی علیہم السلام۔“ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٥: آخرجه ابن ماجہ فی السنن، کتاب الفتنه، باب خروج المهدی،

- ٤٠٨٧ / ١٣٦٨ -

## ٢. فَصْلٌ فِي عَلَامَاتِ ظُهُورِ الْمُهَدِّيِّ

### ﴿ سیدنا امام مہدی ﷺ کے ظہور کی علامات کا بیان ﴾

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: يُوْشِكُ أَهْلُ الْعَرَاقِ أَنْ لَا يُجْبِي إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبْلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوْشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبِي إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْدٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: أَهْلُ الرُّومِ ثُمَّ سَكَتَ هُنْيَةً ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْشِي الْمَالَ حَشِيًّا وَلَا يَعْدُهُ عَدًّا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ: أَتَرَيَا نَّاهَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَا: لَا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

”حضرت ابو نصرہ عليه السلام تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں تھے کہ انہوں نے فرمایا: قریب ہے وہ وقت جب اہل عراق کے پاس نہ غلہ آئے گا نہ درہم۔ ہم نے عرض کیا: یہ بندش کن کی جانب سے ہو گی؟ آپ نے

٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الفتنة وأشرطة الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، ٢٢٣٤ / ٤، الرقم: ٢٩١٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣١٧ / ٣، الرقم: ١٤٤٤٦، وابن حبان في الصحيح، ٧٥ / ١٥، الرقم:

فرمایا: اہلِ عجم کی جانب سے، وہ اس چیز کو ان سے روکیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: قربت  
ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ، ہم نے  
پوچھا: یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہو گی؟ حضرت جابر رض نے فرمایا: رویوں کی  
طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری  
امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ (مہدی) ہو گا جو مالِ لباب بھر بھر کے دے گا، اور  
اسے شمار نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے راوی الجریی کہتے ہیں کہ میں نے (اپنے شخ) ابو  
نصرہ اور ابوالعلاء سے دریافت کیا: کیا آپ حضرات کی رائے میں حدیث پاک میں مذکور  
خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو ان دونوں حضرات نے فرمایا: نہیں، (یہ خلیفہ حضرت  
عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ ہوں گے)۔

اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

٧/٣٤٨ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْوُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَلِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ أَسْمُهُ أَسْمِي قَالَ عَاصِمٌ: وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْلَمْ يَقِنَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَالِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا۔ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ ہو گا جس کا نام میرے نام کے موافق  
ہو گا۔ حضرت ابو ہریرہ رض سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی

٧: آخرجه الترمذی فی السنن، کتاب الفتنه، باب ما جاء في المهدی،  
٤/٥٠٥، الرقم: ٢٢٣١، وأحمد بن حنبل فی المسند، ٣٧٦/١

الرقم: ٣٥٧١ -

رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو اتنا دراز فرمادے گا یہاں تک کہ وہ شخص (یعنی مهدی ﷺ) خلیفہ ہو جائے۔

اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

٨/٣٤٩ . عَنْ عَلَيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَمْ يُقْرَأْ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمُ لَبَعْثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا.

رواء أبو داود وابن أبي شيبة۔

”حضرت علی ﷺ، حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا (تو اللہ تعالیٰ اسی کو دراز فرمادے گا اور) میرے اہل بیت میں سے ایک شخص (مهدی) کو پیدا فرمائے گا۔ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھردے گا جس طرح وہ (اس سے پہلے) ظلم سے بھری ہوگی۔“

اس حدیث کو امام ابو داود اور ابن ابی شيبة نے روایت کیا ہے۔

٩/٣٥ . عَنْ ثُوْبَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْتَلُ كَنْزُكُمْ ثَلَاثَةُ كُلُّهُمْ أَبْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّأْيَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ

: ٨ آخرجه أبو داود في السنن، كتاب المهدى، ٤/١٠٧، الرقم: ٤٢٨٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٥١٣، الرقم: ٣٧٦٤٨۔

: ٩ آخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الفتنة، باب خروج المهدى، ٢/١٣٦٧، الرقم: ٤٠٨٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٢٧٧، الرقم: ٢٢٤١، والحاكم في المستدرك ٤/٥١٠، الرقم: ٨٤٣٢۔

شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا رَأَيْتُمُوهُ فَبِأَيْمَوْهُ وَلَوْ حَبُّوا عَلَى الشَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمُهَدِّيُّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَأَحْمَدُ.

”حضرت ثوبان ﷺ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچوں (کا قافلہ) آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا اگرچہ برف پر گھست کر آنا پڑے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔

١٠/٣٥١ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض، عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وساتھیم قَالَ: يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ إِمَاماً مَهْدِيًّا حَكَماً عَدْلًا، فَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخُنْزِيرَ، وَيَضْعُ الْجِزْيَةَ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا.  
رَوَاهُ أَحْمَدُ.

”حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قریب ہے کہ جو تم میں سے زندہ ہو وہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے ان کے امام مہدی حکم و عدل ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑیں گے اور خزری کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور لڑائی اپنے اوزار کھدے گی۔“  
اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

١١/٣٥٢ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رض قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وساتھیم: يُنْزِلُ بِأَمْتَيِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءً شَدِيدًا مِنْ سُلْطَانِهِمْ لَمْ يُسْمَعْ بَلَاءً

١٠: آخرجهه احمد بن حنبل فی المسند، ٤١١/٢ -

١١: آخرجهه الحاکم فی المستدرک، ٤/٥١٢، الرقم: ٨٤٣٨ -

أَشَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَضِيقَ عَنْهُمُ الْأَرْضُ الرَّحْبَةُ وَحَتَّى تُمَلَّا الْأَرْضُ جَوْرًا  
وَظُلْمًا لَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلْجَاءً يَلْتَجَحُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ  
رَجُلًا مِنْ عِنْتَرِي فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا،  
يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَا تَدْخُرُ الْأَرْضُ مِنْ بَدْرِهَا  
شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ وَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا  
يَعِيشُ فِيهِمْ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعَ تَمَنِي الْأَحْيَاءُ الْأُمُوَاتُ مِمَّا  
صَنَعَ اللَّهُ بِهِ بِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَيْرٍ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

”حضرت ابو سعيد خدری رضي الله عنه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں میری امت پر ان کی قدرت سے زیادہ بلا میں نازل ہوں گی۔ اس سے شدید بلاء پہلے نہ سنی گئی ہوگی۔ یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور زمین خلم و ستم سے بھر جائیگی۔ مومن کوئی ایسا ٹھکانہ نہ پائے گا۔ جہاں وہ خلم کی فریاد لیکر جائے پس اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھردے گا جیسا کہ پہلے خلم و ستم سے بھری تھی۔ زمین و آسمان میں رہنے والے اس سے راضی (خوش) ہو گئے زمین اپنے اندر پڑنے والا ہر دانہ اگائے گی اور اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود ہر قطرے کو موسلا دھار (بارش) کی صورت میں برسائے گا۔ وہ ان میں سات، آٹھ یا نو سال رہے گا اور زندہ لوگ اللہ کے اس کرم کے سبب جو اہل زمین پر کیا مردوں کی تمنا کریں گے (کاش وہ زندہ ہوتے)۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الایحادہ ہے۔

١٢/٣٥٣ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَلِيلُ بْنُ أَبْوِ الْقَاسِمِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي،  
فَيَضْرِبُهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى الْحَقِّ، قُلْتُ: وَكُمْ يَمْلِكُ؟ قَالَ: خَمْسًا  
وَاثْتَنَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى.

”حضرت ابو هریرہ ﷺ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: مجھے میرے خلیل ابو القاسم علیہ السلام نے فرمایا: قیامت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہرنہ ہو گا جو لوگوں کا مقابلہ کرے گا حتیٰ کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں گے، میں نے عرض کیا: وہ کتنا عرصہ بادشاہ رہیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: پانچ اور دو (یعنی سات سال)۔“ اس حدیث کو امام ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔

١٣/٣٥٤ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَقُولُ: يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَقُولُ: بِسُنْتِي، يُنْزِلُ اللَّهُ لَهُ  
الْقُطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَتُخْرُجُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ بَرَكَتِهَا، تُمَلِّأُ الْأَرْضُ مِنْهُ  
قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَعْمَلُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَبْعَ  
سِنِينَ، وَيُنْزِلُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ. رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

”حضرت ابوسعید الخدری ﷺ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سن: میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہو گا جو میری سنت کی بات کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لئے آسمان سے بارش بر سائے گا

١٢: أخرجه أبو يعلى في المسند، ١٢/١٩، الرقم: ٣٣٣٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٧/٣١٥ -

١٣: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٢/١٥، الرقم: ١٠٧٥ -

اور زمین اس کے لیے اپنی برکات نکال دے گی (یعنی اپنے خزانے اگل دے گی)۔ زمین اس کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ اس امت پر سات سال تک حکومت کرے گا اور بیت المقدس میں نزول فرمائے گا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

٤/٣٥٥ . عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ سَيِّكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرُّومِ أَرْبَعُ هَدْنُ. تَقُومُ الرَّابِعَةُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ هِرَقْلَ يَدْعُونُ سَبْعَ سَيِّنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ عَبْدِ آلَافٍ يُقَالُ لَهُ الْمُسْتَوْرُدُ بْنُ حَيْلَانَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ إِمَامُ النَّاسِ يُوْمَئِذٍ قَالَ: مِنْ وَلَدِي ابْنِ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَانَ وَجْهُهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ فِي خَدِّهِ الْأَيْمَنِ خَالٌ أَسْوَدٌ عَلَيْهِ عِبَاءَتَانِ قُعُوَيْتَانِ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَمْلُكُ عِشْرِينَ سَنَةً يَسْتَخْرُجُ الْكُنُوزَ وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشَّرْكِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ .

”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیم نے فرمایا: تمہارے اور روم کے درمیان چار مرتبہ صلح ہو گی۔ چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہو گی جو آل ہرقہل سے ہو گا اور یہ صلح سات سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ تعلیم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہو گا؟ آپ تعلیم نے فرمایا: وہ شخص میری اولاد میں سے ہو گا جس کی عمر چالیس سال کی ہو گی۔ اس کا چہرہ ستارہ کی طرح چمکدار، اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہو گا، اور دو قطوانی عبا میں پہنے ہو گا، بالکل ایسا معلوم ہو گا جیسے بنی اسرائیل کا کوئی شخص ہو، وہ میں سال حکومت کرے گا، زمین سے خزانوں کو نکالے گا اور مشرکین کے شہروں کو قتل کرے گا۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

### ٣. فَصْلٌ فِي أَدَاءِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ صَلَاتُهُ

وَرَاءَهُ

﴿ حَضْرَتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَأَمَامٍ مُهَدِّدٍ بِكَيْفَ يَبْعَثُ نَمَازًا كَرَنَةً كَبِيرَةً ﴾

١٥/٣٥٦ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

”حضرت ابو هريرة رض سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگوں کا اس وقت (خوشی سے) کیا حال ہو گا۔ جب تم میں عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم (آسمان سے) اُتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہو گا۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

١٦/٣٥٧ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ

١٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم، ١٢٧٢/٣، الرقم: ٣٢٦٥، ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشرعية نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ١٣٦/١، الرقم: ١٥٥، وابن حبان في الصحيح، ٢١٣/١٥، الرقم: ٦٨٠٢ -

١٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشرعية نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ١٣٧/١، الرقم: ١٥٦، وابن حبان في الصحيح، ٢٣١/١٥، الرقم: ٦٨١٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٨٠/٩، وأبو عوانه في المسند، ٩٩/١، الرقم: ٣١٧ -

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ  
ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصَّلَوةَ فَيَقُولُ  
أَمِيرُهُمْ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءُ تَكْرِمَةَ  
اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حَبَّانَ.

”حضرت جابر بن عبد الله النصاري رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو فرماتے ہوئے سنًا: میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی حضرت جابر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: آخر میں (حضرت) عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصَّلَوةَ آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر، ان سے عرض کرے گا تشریف لائیے ہمیں نماز پڑھائیے اس کے جواب میں حضرت عِيسَى الصَّلَوةَ فرمائیں گے (اس وقت) میں امامت نہیں کروں گا۔ تم میں سے بعض، بعض پر امیر ہیں (یعنی حضرت عِيسَى الصَّلَوةَ اس وقت خود امامت سے انکار فرمادیں گے اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے)۔“

اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

١٧/٣٥٨ . عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا، قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ أَبِي الْعَكْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَجُلُّهُمْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمُ ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكِصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسَى

١٧: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الفتنة، باب فتنة الدجال،

- ٤٠٧٧ ، الرقم: ١٣٦١ -

يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدُّمُ فَصَلٍ فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيمَتْ فِي صَلَاتِي بِهِمْ إِمَامُهُمْ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَإِسْنَادُهُ قَرِيٌّ وَأَمَّا فِي الْحَدِيثِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَالْمُؤْمِنُ بِهِ الْمُهَدِّيُّ كَمَا جَاءَ الصَّرِيحُ بِهِ.

”حضرت ابو امامہ رسول اللہ ﷺ سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں ہے کہ ایک صحابیہ ام شریک بنت ابی العکر نے عرض کیا: یا رسول اللہ، عرب اس وقت کہاں ہوں گے۔ (مطلوب یہ ہے کہ اہل عرب دین کی حمایت میں مقابلے کے لیے کیوں سامنے نہیں آئیں گے) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرب اس وقت کم ہوں گے اور ان میں بھی اکثر بیت المقدس (یعنی شام) میں ہوں گے اور ان کا امام و امیر ایک رجل صالح (مہدی) ہوگا جس وقت ان کا امام نماز فخر کے لیے آگے بڑھے گا۔ اچانک (حضرت) عیسیٰ ابن مریم ﷺ اسی وقت (آسمان سے) اتریں گے۔ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ (حضرت) عیسیٰ ﷺ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ ﷺ امام کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کیونکہ تمہارے ہی لیے اقامت کی گئی ہے تو ان کے امام (مہدی) لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔“

اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد قوی ہیں اور حدیث میں جو ”إِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ“ کے الفاظ آئے ہیں تو اس سے مراد امام مہدی ﷺ ہیں جیسا کہ اس کا ذکر صراحتاً بھی آیا ہے۔

۱۸/۳۵۹ . عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْمُهَدِّيُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ الَّذِي يَوْمَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

”امام ابن سیرین سے روایت ہے کہ (امام) مہدی اسی امت میں سے ہوں“

گے اور عیسیٰ بن مریم صلوات اللہ علیہ وسلم کی امامت سر انجام دیں گے۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔



## ٤. فَصْلٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَمْلأُ الْأَرْضَ

### قِسْطًا وَ عَدْلًا

﴿ سیدنا امام مہدی ﷺ کا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے

کا بیان ﴿

١٩/٣٦٠ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُمْلأُ الْأَرْضُ جَوْرًا وَ ظُلْمًا فَيُخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي فَيَمْلِكُ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا فَيَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَ الْحَاكِمُ . وَ قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (آخری زمانہ میں) زمین جور و ظلم سے بھر جائے گی تو میری اولاد سے ایک شخص پیدا ہو گا اور سات سال یا نو سال تک خلافت کرے گا (اور اپنے زمانہ خلافت میں) زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ جور و ظلم سے بھر گئی ہو گی۔“ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

٢٠/٣٦١ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَبِيًّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

١: أخرجه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ٣/٧٠، الرَّقم: ١١٦٨٣ ،

وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكِ، ٤/٦٠، الرَّقم: ٨٦٧٤ -

٢: أخرجه الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكِ، ٤/٥١٢، الرَّقم: ٨٤٣٨ -

يَنْزِلُ بِأَمْتَى فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءً شَدِيدًا مِنْ سُلْطَانِهِمْ لَمْ يُسْمَعْ بَلَاءً أَشَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَضِيقَ عَنْهُمُ الْأَرْضُ الرَّحْبَةُ، وَحَتَّى يَمْلأَ الْأَرْضَ جَوْرًا وَظُلْمًا لَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلْجَأً يَنْجِي إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَتْرَتِي فَيَمْلأُ الْأَرْضَ قُسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَ ظُلْمًا وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، لَا تَدْخُرُ الْأَرْضُ مِنْ بَدْرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجْتُهُ وَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، يَعِيشُ فِيهَا سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعَ، تَتَمَّنِي الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَيْرٍ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيفٌ الْإِسْنَادِ.

”حضرت ابو سعيد خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہو گا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو زین کو عدل و انصاف سے پھر اسی طرح بھردے گا جیسا وہ پہلے ظلم و جور سے بھر پچھی ہو گی۔ زین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار بر سائے گا اور زین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمبا ہو گی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی و ظلم کی حالت میں گذر گئے ہیں کاش وہ بھی اس سماں کو دیکھتے اسی برکت کے حال پر وہ سات یا آٹھ یا نو سال تک زندہ رہیں گے۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

٢١/٣٦٢ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمُهَدِّيُّ. إِنْ قَصْرَ فَسَبْعَ وَإِلَّا ثَمَانٌ وَإِلَّا فَتِسْعَ تُنَعَّمُ أُمَّتِي فِيهَا نِعْمَةً لَمْ يُعْمَلْهَا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وَلَا تَدْخُرُ الْأَرْضُ شَيْئًا مِنَ النَّبَاتِ، وَالْمَالُ كَدُوْسٍ يَقُولُ: يَا مَهَدِّيُّ، أَعْطِنِي فَيَقُولُ خُذْهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں ایک مہدی ہوگا (ان کی مدت خلافت) اگر کم ہوئی تو سات یا آٹھ یا نو سال ہوگی۔ میری امت ان کے زمانہ میں اس قدر خوش حال ہوگی کہ اتنی خوش حالی اسے کبھی نہ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے (حسب ضرورت) موسلا دھار بارش بر سائے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار اگاہے گی۔ ایک شخص کھڑا ہو کر مال کا سوال کرے گا تو امام مہدی کہیں گے (اپنی حسب خواہش خزانہ میں جا کر) خود لے لو۔“  
اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔

٢٢/٣٦٣ . عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَ مِنَا آلَ مُحَمَّدٍ الْمُهَدِّيُّ أُمُّ مِنْ غَيْرِنَا؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ مِنَّا، يَخْتِمُ اللهُ بِهِ الدِّينَ كَمَا فَتَحَ بِنَا، وَبِنَا يُنْقَذُونَ مِنَ الْفِتْنَةِ كَمَا أَنْقَذُوا مِنَ الشَّرِّكَ، وَبِنَا يُؤْلَفُ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ عَدَاوَةِ الْفِتْنَةِ، كَمَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ عَدَاوَةِ الشَّرِّكَ، وَبِنَا يُصْبِحُونَ بَعْدَ عَدَاوَةِ الْفِتْنَةِ إِخْوَانًا كَمَا أَصْبَحُوا بَعْدَ عَدَاوَةِ الشَّرِّكِ إِخْوَانًا فِي دِينِهِمْ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

- ٢١: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٣١١/٥، الرقم: ٥٤٠٦ -

- ٢٢: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥٦١/١، الرقم: ١٥٧ -

”حضرت علیٰ ﷺ سے مردی ہے آپ نے فرمایا: میں نے (حضور نبی اکرم ﷺ) کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا (امام) مہدی ہم آل محمد میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور میں سے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان پر (سلطنت) دین اسی طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا ہے اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنہ سے بچایا جائے گا جس طرح انہیں شرک سے نجات عطا فرمائی گئی ہے اور ہمارے ذریعے ہی اللہ اکنے دلوں میں فتنہ کی عداوت کے بعد محبت والفت پیدا فرمائے گا۔ جس طرح اللہ نے شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں (ہمارے ذریعے) الفت پیدا فرمائی اور ہمارے ذریعے ہی فتنہ (فساد) کی عداوت کے بعد لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، جس طرح وہ شرک کی عداوت کے بعد اس دین میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔“ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٢٣/٣٦٤ . عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ ذَكْرِ الْمُهَدِّيِّ فَقَالَ: لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ قِسْطًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا .  
رَوَاهُ الْبِزارُ، وَقَالَ الْهَيْشَمِيُّ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

”حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اگر ان کی مدت خلافت کم ہوئی تو سات برس ہوگی ورنہ آٹھ یا نو سال ہوگی وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔“

اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔ اور امام پیغمبری نے فرمایا: اس کے رجال ثقات ہیں۔

٢٣: أخرجه البزار في المسند، ٢٥٦/٨، الرقم: ٣٣٢٠، والهيثمي في

مجمع الزوائد، ٣١٦/٧۔

## ٥. فَصْلٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ يَكُونُ خَلِيفَةً

### الله عَلَى الْإِطْلَاقِ

﴿سَيِّدُنَا إِمامُ مُهَدِّيُّ الْعَالَمِينَ كَعَلِيِّ الْإِطْلَاقِ خَلِيفَةُ اللَّهِ هُوَ نَّا كَبِيَان﴾

٢٤/٣٦٥ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيُخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُهُنَّهُ، وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَيَّأُ عَوْنَهُ، بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَيُبَعَّثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَالِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَابُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَيَّأُ عَوْنَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ أَخْوَاهُ كَلْبٌ فَيُبَعَّثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَالِكَ بَعْثٌ كَلْبٌ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهُدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَيَبْلُغُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّ فِي وَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

٢٤: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب المهدى، ٤/١٠٧، الرقم: ٤٢٨٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٣١٦، الرقم: ٢٦٧٣١ والحاكم في المستدرك، ٤/٤٧٨، الرقم: ٨٣٢٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٤٦٠، الرقم: ٣٧٢٢٣ -

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ هِشَامٍ تَسْعَ سِنِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَعَ سِنِينَ.

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت (ئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں) اختلاف ہو گا ایک شخص (یعنی مہدی اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے نہ خلیفہ بنا دیں) مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے کچھ لوگ (جو انہیں بحیثیت مہدی پہچان لیں گے) ان کے پاس آئیں گے اور انہیں (مکان) سے باہر نکال کر جر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت (خلافت) کر لیں گے (جب ان کی خلافت کی خبر عام ہو گی) تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لئے روانہ ہوگا (جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی) مکہ و مدینہ کے درمیان بیداء (چیل میدان) میں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا (اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد) شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں ایک قریشی لنسٹ شخص (یعنی سفیانی) جس کی نہماں قبیلہ کلب میں سے ہوگی خلیفہ مہدی اور ان کے اعوان و انصار سے جنگ کے لئے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالب ہوں گے یہی (جنگ) کلب ہے اور خسارہ ہے اس شخص کے لئے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو (اس فتح و کامرانی کے بعد) خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی ﷺ کی سنت پر چلانیں گے اور اسلام کامل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا (یعنی دنیا میں پورے طور پر اسلام کا رواج و غلبہ ہو گا) بحالت خلافت، (امام) مہدی دنیا میں سات سال اور دوسری روایات کے اعتبار سے نو سال رہ کر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔“

اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔

٢٥/٣٦٦ . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَذَا الَّذِينَ قَائِمًا حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَيْكُمْ أُنْشَأَ عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ. فَسَمِعْتُ كَلَامًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ أَفْهَمْهُ، قُلْتُ لِأَبِي: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرْيَشٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ.

”حضرت جابر بن سمرة رض سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو فرماتے ہوئے سن: یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر بارہ خلفاء ہوں گے۔ ان تمام پر امت مجتمع ہو گی پھر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم سے (پچھ) گفتگو سنی جسے میں سمجھنے سکا۔ تو میں نے اپنے باپ سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کیا فرمारہ ہے ہیں؟ انہوں نے کہا: ”وہ تمام (بارہ خلفاء) قریش سے ہوں گے۔“

اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔

٢٦/٣٦٧ . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رض قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَذَا الَّذِينَ عَزِيزُوا إِلَى الْأُنْشَأِ عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ: فَكَيْرَ النَّاسُ وَضَجُّوا، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً حَفِيَّةً قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ مَا قَالَ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرْيَشٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ.

”حضرت جابر بن سمرة رض سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو فرماتے ہوئے سن: یہ دین بارہ خلفاء کے آنے تک غالب رہے گا۔ حضرت جابر رض نے فرمایا: (اس پر) لوگوں نے (بلند آواز) سے ”اللہ اکبر“ کہا اور شور برپا ہو گیا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے آہستہ آواز میں ایک کلمہ فرمایا: میں نے اپنے والد سے پوچھا: ابا جان! آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے کیا فرمایا ہے؟ (انہوں نے بتایا) آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا: وہ سب

(بارہ غفار) قریش میں سے ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

٢٧/٣٦٨ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبَايِعُ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ كَعِدَّةٍ أَهْلِ بَدْرٍ، فِيَاتِيهِ عَصْبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے ایک شخص (مہدی) سے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل (یعنی ۳۱۳) افراد بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال (بیعت کے لئے) آئیں گے۔“

اس حدیث کو امام حاکم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

٢٨/٣٦٩ . عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْشِي الْمَالَ فِي النَّاسِ حَتَّى لاَ يَعْدُهُ عَدَا ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَعُودَنَّ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بباب بھر کے تقسیم کرے گا۔ شمار نہیں کرے گا۔ (یعنی سخاوت اور دریا دلی کی بناء پر شمار کے بغیر کثرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کریں گے) اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے! با تحقیق (غلبہ اسلام کا دور) ضرور لوٹے گا (یعنی امیر اسلام مصلح ہو جانے کے بعد ان کے زمانہ میں پھر سے

٢٧: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/٤٧٨، الرقم: ٨٣٢٨، وابن

أبی شیبہ فی المصنف، ٧/٤٦٠، الرقم: ٣٧٢٢٣۔

٢٨: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/٥٠١، الرقم: ٨٤٠٠۔

فروغ حاصل کر لے گا)۔“ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

٢٩/٣٧٠ . عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّأْيَاتِ السَّوْدَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبْلِ خُرَاسَانَ فَأَئْتُوهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمُهَدِّيُّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

”حضرت ثوبان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خراسان کی طرف آتے ہوئے کالے جھنڈے جب دیکھو تو ان کے پاس آنا کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٠/٣٧١ . عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَطَلَّعُ عَلَيْكُمْ رَأْيَاتُ سُوْدُ مِنْ قِبْلِ خُرَاسَانَ، فَأَئْتُوهَا وَلَوْ حَبُوا عَلَى الشَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمُهَدِّيُّ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

”حضرت ثوبان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عنقریب تم پر خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے طلوع ہوں گے پس تم ان جھنڈوں کی طرف آؤ خواہ تمہیں برف پر لڑھک کر ہی کیوں نہ آنا پڑھے۔ پس بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت مہدی ﷺ ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

٣١/٣٧٢ . عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٢٩: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/٢٧٧، الرقم: ٤٤٤٢،

والحاكم في المستدرك، ٤/٤٧، الرقم: ٣٥٣١۔

٣٠: أخرجه الديلمي في مسنن الفردوس، ٢/٣٢٣، الرقم: ٣٤٧٠۔

٣١: أخرجه الديلمي في مسنن الفردوس ، ٥/١٠، الرقم: ٨٩٢٠۔

**يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ عَمَامَةُ، فَيَأْتِي مُنَادٍ يُنَادِي: هَذَا الْمَهْدِيُّ  
خَلِيفَةُ اللَّهِ فَاتَّبِعُوهُ. رَوَاهُ الدَّيَّانِيُّ.**

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امام مہدی ﷺ تشریف لا یمیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہو گا پس ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں۔ سوتھ ان کی اتباع دیرودی کرو۔“ اس حدیث کو امام دیکھی نے روایت کیا ہے۔

## ٦. فَصُلُّ فِي أَنَّ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ تُنَعَّمُ فِي وِلَايَتِهِ

نِعْمَةً لَمْ تُنَعَّمْهَا قَطُّ

﴿ سیدنا امام مہدی ﷺ کی خلافت میں اُمّتِ محمد یہ کو وہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو اسے کبھی حاصل نہ ہوئی ہوں گی ﴾

٣٢/٣٧٣ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَشِّينَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا حَادِثٌ فَسَأَلَنَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ فِي أُمَّتِي الْمُهَدِّيَّ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا زَيْدُ الشَّاكُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: سِنِينَ قَالَ فَيَجِيُّءُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ: يَا مَهَدِّيُّ، أَعْطِنِي أَعْطِنِي قَالَ: فَيَحْشِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلْهُ.

رواء الترمذى وأحمد، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

”حضرت ابوسعید خدری رض بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقوع حوادث کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں امام مہدی ہوں گے جو پانچ سالات یا نو تک حکومت کریں گے (زید راوی کوٹھیک مدت میں شک ہے) میں نے پوچھا کہ اس عدد سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اس عدد سے مراد) سال ہیں۔ ان کا زمانہ ایسی خیرو

برکت کا ہوگا کہ ایک شخص ان سے آکر سوال کرے گا اور کہے گا کہ اے مہدی! مجھے کچھ دیجئے، مجھے کچھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا: امام مہدی ہاتھ بھر بھر کر اس کو اتنا مال دے دیں گے جتنا وہ اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہوگا۔“

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

٣٧٤/٣٧٤ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَمَنْٰجِهِ قَالَ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قَصْرٌ فَسَبْعُ وَإِلَّا فَتِسْعُ تُنْعَمُ أُمَّتِي فِيهِ نِعْمَةٌ لَمْ يُنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَيِ الْأَرْضُ أَكَلَاهَا لَا تَدْخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يُوْمَئِذٍ كَدُوْسٍ يَقُولُ الرَّجُلُ يَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ، أَعْطِنِي فَيَقُولُ: خُدْ.

رواه ابن ماجہ وابن أبي شیبہ والحاکم۔

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میری امت میں مہدی ہوگا جو کم سے کم سات سال و نو سال تک رہے گا۔ اس کے زمانے میں میری امت اتنی خوشحال ہوگی کہ اس سے قبل کچھ ایسی خوشحال نہ ہوتی ہوگی۔ زمین اپنی ہر قسم کی پیداوار اس کے لئے نکال کر رکھ دے گی اور کچھ بچا کر نہ رکھے گی اور مال اس زمانے میں کھلیاں میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا: اے مہدی! مجھے کچھ دیجئے۔ وہ فرمائیں گے (جتنا مرضی ہو) اٹھا لے۔“ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن أبي شیبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٣: أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتنة، باب خروج المهدى، ١٣٦٦ / ٢، الرقم: ٤٠٨٣، وابن أبي شیبہ في المصنف، ٥١٢ / ٧، الرقم: ٣٧٦٣٨، والحاکم في المستدرک، ٤ / ٦٠١، الرقم: ٨٦٧٥۔

٣٧٥ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمُهَدِّيُّ. يَسْقِيهُ اللَّهُ الْغَيْثَ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضَ نِبَاتَهَا، وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَّاً، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ وَتَعْظُمُ الْأَمَّةُ يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًّا يَعْنِي حِجَّاجًا .

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ وَوَافَقَهُ الدَّهْبِيُّ .

”حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے آخری دور میں مہدی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے زمانہ (خلافت) میں مویشیوں کی کثرت اور امت کی عظمت ہوگی (وہ خلافت کے بعد) سات سال یا آٹھ سال زندہ رہیں گے۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

٣٧٦ . عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ: رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُهَدِّيَّ لَا يَخْرُجُ حَتَّى تُقْتَلَ النَّفْسُ الرَّزِّكَيَّةُ، فَإِذَا قُتِلَتِ النَّفْسُ الرَّزِّكَيَّةُ غَضَبَ عَلَيْهِمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَأَتَى النَّاسُ الْمُهَدِّيَّ فَزَفُوهُ كَمَا تُزَفُّ الْعُرُوْسُ إِلَى زُوْجَهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا، وَهُوَ يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وَتُخْرِجُ الْأَرْضَ نِبَاتَهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءَ

- ٣٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/٦٠، الرقم: ٨٦٧٣ -

- ٣٥: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١٤/٧، الرقم: ٣٧٦٥٣ -

**مَطْرَهَا، وَتُنَعِّمُ أُمَّتِي فِي وِلَائِتِهِ بِعَمَّةٍ لَمْ تُنَعِّمُهَا قَطُّ.** رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

”امام مجاہد (مشہور تابعی) ایک صحابی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”نفس زکیہ“ کے قتل کے بعد ہی خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ جس وقت نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلین پر غضب ناک ہوں گے۔ بعد ازاں لوگ (امام) مہدی کے پاس آئیں گے اور انہیں دہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کریں گے اور (امام) مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھردیں گے۔ (ان کے زمانہ خلافت میں) زمین اپنی پیداوار کو اگادے گی اور آسمان خوب برستے گا اور میری امت پر ان کی ولایت و سلطنت میں اس قدر نعمتیں نازل ہوں گی کہ اتنی نعمتوں سے اسے پہلے کبھی نہیں نوازا گیا ہوگا۔“ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

## ٧. فَصْلٌ فِي جَامِعِ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ

﴿سَيِّدُنَا إِمامُ مَهْدِيِّ الْعَالَمِ﴾ كَيْ جَامِعُ صِفَاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ

٣٦/٣٧٧ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الرَّبِيعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِقِ، فَيُوْطِئُونَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِي سُلْطَانَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَالْبَزَّارُ وَالْطَّبَرَانِيُّ.

”حضرت عبد الله بن حارث بن جزء زبيدي رض“ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مشرق کی جانب سے لوگوں کا ظہور ہوگا جو امام مهدی کی حکومت کے سامنے سرتسلیم ختم کریں گے۔“ اس حدیث کو امام ابن لمبہ، بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

٣٧/٣٧٨ . عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ يَسْقِيُهُ اللَّهُ الْغَيْثَ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَيُعْطِي الْمَالَ صَحَاحًا وَتَكُثرُ الْمَاشِيَةُ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًّا يَعْنِي حِجَاجًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ.

٣٦: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الفتنة، باب خروج المهدى، ١٣٦٨/٢، الرقم: ٤٠٨٨، والبزار في المسند، ٢٤٣/٩، الرقم: ٣٧٨٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩٤/١، الرقم: ٢٨٥ والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣١٨/٧، والسيوطى في الحاوي للفتاوى، ١٢٧/٢ -

٣٧: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٦٠١/٤، الرقم: ٨٦٧٣، والسيوطى في الحاوي للفتاوى، ١٣٢/٢ -

”حضرت ابو سعید خدری رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وس علیہما السلام نے فرمایا: میری امت کے آخری دور میں مہدی صلی اللہ علیہ وس علیہما السلام کا ظہور ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے خوب نوازے گا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی اور وہ مال کی بالکل ٹھیک تقسیم کرے گا اور (اس کے دور میں) مویشیوں کی بہتان ہوگی اور میری امت کی خوب تعظیم ہوگی وہ (اپنی خلافت میں) سات یا آٹھ سال زندہ رہے گا۔“

اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

٣٧٩ . عَنْ جَعْفَرٍ صلی اللہ علیہ وس علیہما السلام قَالَ: يَقُولُ الْمَهْدِيُّ سَنَةً مِائَتَيْنِ.

رواہ ابن حماد۔

”حضرت امام جعفر رض بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی صلی اللہ علیہ وس علیہما السلام سن دوسو (۲۰۰) میں ظاہر ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام نعیم بن حماد نے روایت کیا ہے۔

٣٨٠ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ صلی اللہ علیہ وس علیہما السلام قَالَ: يَمْلِكُ بَنُو الْعَبَّاسِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّ النَّاسَ مِنَ الْخَيْرِ، ثُمَّ يَتَشَعَّثُ أَمْرُهُمْ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلَّا جُحْرَ عَقْرَبٍ فَادْخُلُوا فِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي النَّاسِ شَرٌ طَوِيلٌ، ثُمَّ يَزُولُ مُلْكُهُمْ سَنَةً سَبْعَ وَتِسْعِينَ أَوْ تِسْعَ وَتِسْعِينَ، وَيَقُولُ الْمَهْدِيُّ فِي سَنَةِ مِائَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالسِّيُوطِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ۔

٣٨ : أخرجه نعيم بن حماد في الفتنة/ ٣٣٢ ، الرقم: ٩٥٣ ، والسيوطى في الحاوي للفتاوى، ١٤٤/٢ -

٣٩ : أخرجه أبو نعيم في الفتنة/ ٢١٧ ، الرقم: ٥٩٩ ، والسيوطى في الحاوي للفتاوى، ١٦٣/٢ - ١٦٤

”حضرت محمد بن حنفیہ رض بیان کرتے ہیں کہ بنو عباس لوگوں پر حکومت کریں گے یہاں تک کہ انہیں ہر طرح کی خبر ملے گی، پھر ان کی حکومت کا شیرازہ سن پچانوے ہجری میں بکھر جائے گا، پس اس وقت اگر تم کسی بچھو کابل بھی پاؤ تو اس میں داخل ہو جانا کیونکہ اس وقت لوگوں میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والا شر پاپا ہو گا، پھر سن ستانوے یا ننانوے میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر سن دوسو (۲۰۰ھ) میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گا۔“

اس حدیث کو امام ابو نعیم اور امام سیوطی نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ امام سیوطی کے ہیں۔

٤٠ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَمْلِكُ الْمُهَدِّيُّ سَبْعَ سِنِينَ وَشَهْرَيْنَ وَأَيَّامٍ. رَوَاهُ نُعِيمُ بْنُ حَمَادٍ وَالسُّيُوطِيُّ .

”محمد بن حمیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: امام مہدی علیہ السلام سات سال دو ماہ اور کچھ دن حکومت کریں گے۔“

اس حدیث کو امام نعیم بن حماد اور سیوطی نے روایت کیا ہے۔

٤١ / ٣٨٢ . عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: يَظْهَرُ الْمُهَدِّيُّ بِمَكَّةَ عِنْدَ الْعِشاَءِ، وَمَعْهُ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَمِيصُهُ وَسَيْفُهُ وَعَالَامَاتُ وَنُورٌ وَبَيَانٌ، فَإِذَا صَلَّى الْعِشاَءَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَقُولُ: أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ أَيَّهَا النَّاسُ وَمَقَامُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ رَبِّكُمْ فَقَدْ اتَّخَذَ الْحَجَرَ وَبَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ،

٤٠ : أخرجه نعيم بن حماد في الفتنة/ ٣٧٨، الرقم: ١١٣٠ ، والسيوطى في الحاوي للفتاوى، ١٥٥/٢ -

٤١ : أخرجه نعيم بن حماد في الفتنة/ ٣٤٥، الرقم: ٩٩٩ ، والسيوطى في الحاوي للفتاوى، ١٤٤/٢ - ١٤٥

وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَآمُرُكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تُحَافِظُوا عَلَى طَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَأَنْ تُحْيِوَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ، وَتُمِيِّنُوا مَا أَمَاتَ، وَتَكُونُوا عَلَى الْهُدَى، وَوَرَرَاءَ عَلَى التَّقْوَى، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَنَّا فَنَاؤُهَا وَزَوْلُهَا، وَآذَنْتُ بِاُنْصَارَمِ، فَإِنِّي أَذْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَالْعَمَلِ بِكِتَابِهِ، وَإِمَاتَةِ الْبَاطِلِ، وَإِحْيَاءِ سُنْنَتِهِ، فَيَظْهُرُ فِي ثُلُثَمَائَةِ وَثَلَاثَةِ عَشَرَ رَجُلًا عَدَدُ أَهْلِ بَدْرٍ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ فَرَغَ كَفْرَنَعَ الْخَرِيفِ، رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ أَسْدٌ بِالنَّهَارِ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِلْمَهْدِيِّ أَرْضَ الْحِجَازِ، وَيَسْتَخْرُجُ مَنْ كَانَ فِي السِّنِّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَتَنْزِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ الْكُوفَةَ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ بِالْبَيْعَةِ إِلَى الْمَهْدِيِّ، وَيَبْعَثُ الْمَهْدِيُّ جُنُودَهُ فِي الْأَفَاقِ، وَيُمِيتُ الْجَوْرَ وَأَهْلَهُ، وَتَسْتَقِيمُ لَهُ الْبُلْدَانُ، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِيهِ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ. رَوَاهُ ابْنُ حَمَادٍ وَالسُّيوُطِيُّ.

”حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ امام مهدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کے وقت مکہ میں ظہور ہو گا اور ان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا (عطای کردہ) جھنڈا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک اور توار ہو گی (اس کے علاوہ دیگر) علامات، نور اور واضح بیان ہو گا۔ پس آپ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں گے آے بلند ندادیں گے: اے لوگو! میں تمہیں اللہ اور اس کے حضور تمہارے کھڑے ہونے کی یاد دلاتا ہوں۔ جس نے اپنی شان کے لائق اپنے مقام کو لازم کپڑا اور (لوگوں کی اصلاح کے لئے) انبیاء مبعوث کئے اور کتنا میں نازل کیں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراو اور اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کپڑو اور اس طریقہ کو زندہ کرو جسے قرآن نے زندہ کیا اور

اس طریقے کو ختم کرو جسے قرآن نے ختم کیا ہے اور ہدایت کے راستے میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ پس بے شک دنیا تباہی اور بر بادی کے دہانے پر ہے اور میں تمہیں ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور ان کی کتاب پر عمل کرنے، باطل کو ختم کرنے، سنت کو زندہ کرنے کی طرف بلا تھا ہوں۔ پس آپ ﷺ کا ظہور اصحاب بدر کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ لوگوں میں ہو گا جو بغیر کسی معینہ وقت کے آئیں گے اور خریف کے پتوں کی طرح دنیا میں بکھرے ہوئے ہوں گے جو رات کے وقت را ہوں کی طرح ہوں گے لیکن دن کے وقت شیروں کی طرح ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ امام مہدی ﷺ کے لئے ارض حجاز کو فتح کرے گا اور وہ بنو ہاشم کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جہاد کے لئے نکالیں گے۔ اور وہ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ سر زمین کوفہ میں اتریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اذن بیعت عطا فرمائے گا اور وہ اپنے لشکروں کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے اور ظلم اور ظالموں کو ختم کریں گے۔ پس تمام ممالک ان کے زیر سایہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ قسطنطینیہ کو فتح کرے گا۔“ اس حدیث کو امام ابن حماد اور سیوطی نے بیان کیا ہے۔

٤٢/٣٨٣ . عَنْ حُذِيفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَهْدِيُّ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِيِّ، لَوْنُهُ لَوْنُ عَرَبِيٌّ، وَجَسْمُهُ جِسْمٌ إِسْرَائِيلِيٌّ، عَلَيْهِ الْأَيْمَنُ خَالٌ كَانَهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يَمْلُأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، يَرْضَى فِي خِلَافَتِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ وَأَهْلُ السَّمَاءِ وَالْطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً۔ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ۔

”حضرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ سے

نے فرمایا: مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا رنگ عربی اور ان کی جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ ان کے دائیں رخسار پر تل ہو گا گویا وہ نور افشاں ستارہ ہوں گے۔ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی ان کی خلافت پر اہل زمین اور اہل آسمان سب راضی ہوں گے اور فضا میں پرندے بھی راضی (خوش) ہوں گے۔“ اس حدیث کو امام دیلیٰ نے روایت کیا ہے۔



## مصادر التحريج

- ١- القرآن الحكيم.
- ٢- آمدي، سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد (٥٥١-١٢٣٣هـ) / (١٤٥٦-١٢٣٣ء).
- ٣- الأحكام في أصول الأحكام - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٩٨٠هـ / ١٣٠٠ء.
- ٤- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان كوفي (١٥٩-١٢٣٥هـ) / (٢٣٥-٨٣٩ء) - المصنف - رياض، سعودي عرب: مكتبة الرشد، ١٣٠٩هـ / ٢٠١٧ء.
- ٥- ابن أبي عاصم، أبو بكر بن عمرو بن خحناك بن مخلد شيباني (٢٠٢-٨٢٢هـ) / (٩٠٠-٨٢٢ء) - الزهد - قاهره، مصر: دار الريان للتراث، ١٣٠٨هـ.
- ٦- ابن أبي عاصم، أبو بكر بن عمرو بن خحناك بن مخلد شيباني (٢٠٢-٨٢٢هـ) / (٩٠٠-٨٢٢ء) - السنة - بيروت، لبنان: المكتب الإسلامي، ١٣٠٠هـ.
- ٧- ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الکريم بن عبد الواحد شيباني جزري (٥٥٥-١٢٣٣هـ) / (١٢٣٣-١١٦٠ء) - أسد الغابة في معرفة الصحابة - بيروت، لبنان: دار الکتب العلمية.
- ٨- ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام حراني (٢٢١-١٢٦٣هـ) / (١٢٣٣-١١٦٠ء) - الكامل في التاريخ - بيروت، لبنان: دار صادر، ١٩٧٩هـ / ١٣٢٠ء.
- ٩- ابن جارود، أبو محمد عبد الله بن علي بن جارود نيشاپوري (٥٣٠هـ) - المتنقى من السنن المسندة - بيروت، لبنان: مؤسسة الكتاب الثقافية، ١٣١٨هـ / (١٩٨٨ء).

**الإِحْاجَةُ فِي مَنَاقِبِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ**

- ١٠- ابن جعد، ابو الحسن علي بن جعد بن عبيد الله (١٣٣٥-١٣٣٠هـ).  
المسنند. بيروت، لبنان: مؤسسة نادر، ١٣٢٠هـ / ١٩٩٠ءـ.
- ١١- ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله (٥١٠هـ).  
التحقيق في احاديث الغلاف. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٣١٥هـ / ١٩٩٧هـ.
- ١٢- ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله (٥١٠هـ).  
تذكرة الخواص. بيروت، لبنان: مؤسسة اهل البيت، ١٣٠١هـ / ١٩٨١ءـ.
- ١٣- ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله (٥١٠هـ).  
صفوة الصفوة. بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٣٠٩هـ / ١٩٨٩ءـ.
- ١٤- ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله (٥١٠هـ).  
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. بيروت، لبنان: دار صادر، ١٣٥٨هـ / ١١٢٠هـ.
- ١٥- ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان (٢٤٠-٣٥٢هـ).  
الصحبيج. بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٣١٣هـ / ٨٨٣-٩٦٥ءـ.
- ١٦- ابن حيان، عبدالله بن محمد بن جعفر بن محمد بن حيان أبو محمد الانصارى (٢٧٣هـ).  
طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها. بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٣١٢هـ / ١٩٩٢ءـ.
- ١٧- ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد كنافى (٧٧٣هـ).  
الإصابة في تمييز الصحابة. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٣٢٢هـ / ١٢٣٩ءـ.

- دار الجليل، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢ءـ.
- ١٨ - ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد كنافى (٧٧٣)ـ . تهذيب التهذيب . بيروت، لبنان: دار الفكر، ١٤٢٩هـ / ١٩٣٩ءـ .
- ١٩ - ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد كنافى (٧٧٣)ـ . فتح الباري . لاہور، پاکستان: دار نشر الکتب الاسلامیہ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١ءـ .
- ٢٠ - ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد كنافى (٧٧٣)ـ . لسان الميزان . بيروت، لبنان، مؤسسة الاعلمي المطبوعات ١٤٠٢هـ / ١٩٨٦ءـ .
- ٢١ - عسقلاني، احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد كنافى (٧٧٣)ـ . المطالب العالية . بيروت، لبنان: دار المعرفة، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٦ءـ .
- ٢٢ - ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي (٣٨٢)ـ . الاحكام في اصول الاحكام . فیصل آباد، پاکستان: ضياء السنّة اداره الترجمہ والتعريف، ١٤٠٣هـ .
- ٢٣ - ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي، (٣٨٢ـ ٩٩٣هـ / ٢٥٢ـ ١٠٢٣ءـ)ـ . المحتوى . بيروت، لبنان: دار الآفاق الجديدة .
- ٢٤ - ابن خزيمه، ابو بكر محمد بن اسحاق (٢٢٣ـ ٨٣٨هـ / ٩٢٣ءـ)ـ . الصحيح . بيروت، لبنان: المكتبة الاسلامية، ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠ءـ .
- ٢٥ - ابن راهويه، ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم بن عبد الله (١٦١)ـ . المسند . مدینہ منورہ، سعودی عرب: مکتبۃ الایمان، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٨ءـ .

- ١٤٩١/١٣١٢

- ٢٦- ابن رجب حنبلي، ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد (٧٣٦-٧٩٥ھ). - جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. - بيروت، لبنان: دار المعرفة، ١٣٠٨ھ.
- ٢٧- ابن زيد، أبو اسماعيل جماد بن إسحاق بن اسماعيل (٧٢٦ھ). - تركة النبي ﷺ والسبيل الذي وجهها فيها - ١٣٠٢ھ.
- ٢٨- ابن سعد، ابو عبد الله محمد (١٢٨-٢٣٠ھ/٨٢٥-٨٣٥ء). - الطبقات الكبرى. - بيروت، لبنان: دار بيروت للطبع والنشر ، ١٣٩٨ھ/١٩٧٨ء.
- ٢٩- ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (٣٦٨-٣٦٣ھ/٩٧٩-٩٧٦ء). - الإستيعاب في معرفة الأصحاب. - بيروت، لبنان: دار الجليل، ١٣١٢ھ.
- ٣٠- ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (٣٦٨-٣٦٣ھ/٩٧٩-٩٧٦ء). - التمهيد. - مغرب (مراكش): وزات عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامية، ١٣٨٧ھ/١٩٧٠ء.
- ٣١- ابن عساكر، ابو قاسم علي بن حسن بن هبة الله بن عبد الله بن حسين دمشقي (٣٩٩). - تاريخ دمشق الكبير (تاريخ ابن عساكر). - بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، ١٣٢١ھ/٢٠٠١ء.
- ٣٢- ابن عساكر، ابو قاسم علي بن حسن بن هبة الله بن عبد الله بن حسين دمشقي (٣٩٩-٣٩٥ھ/١١٠٥-١١٠٢ء). - تهذيب تاريخ دمشق الكبير. - بيروت، لبنان، دار الميسير، ١٣٩٩ھ/١٩٧٩ء.
- ٣٣- ابن قانع، عبد الباقى (٢٦٥-٣٥٥ھ). - معجم الصحابة. - مدينة منوره، مكتبة الغرباء الارثية، ١٣١٨ھ.

- ٣٤- ابن قدامه، ابو محمد عبد الله بن احمد المقدسي (٢٠٢٥ھ) - **المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني** - بيروت، لبنان: دار الفكر، ١٣٠٥ھ.
- ٣٥- ابن قيساني، ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی بن احمد مقدسي (٢٢٨٧-٢٥٥٥ھ) - **تذكرة الحفاظ** - ریاض، سعودی عرب: دار المصمیع، ١٣١٥ھ.
- ٣٦- ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر (٢٠١٣-٢٧٢٧ھ) - **البداية والنهاية** - بيروت، لبنان: دار الفكر، ١٣١٩ھ/١٩٩٨ء.
- ٣٧- ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر (٢٠١٣-٢٧٢٧ھ) - **تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب** - مکتبة المکرمۃ، سعودی عرب: دار حراء، ١٣٠٦ھ.
- ٣٨- ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر (٢٠١٣-٢٧٢٧ھ) - **تفسير القرآن العظيم** - بيروت، لبنان: دار المعرفة، ١٣٠٠ھ/١٩٨٠ء.
- ٣٩- ابن ماجہ، ابو عبد الله محمد بن یزید قزوینی (٢٠٩٣-٢٢٢٥ھ) - **السنن** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٣١٩ھ/١٩٩٨ء.
- ٤٠- ابن مبارک، ابو عبد الرحمن عبد الله بن واضح مروزی (١١٨١-٢٣٦١ھ) - **كتاب الزهد** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- ٤١- ابن الملقن، عمر بن علی بن الملقن الأنصاری (٢٣٧٢-٨٠٣٥ھ) - **خلاصة البدر المنير في تخریج كتاب الشرح الكبير للرافعی** - ریاض، سعودی عرب: مکتبۃ الرشد، ١٣١٠ھ.
- ٤٢- ابن منده، ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن یحیاً (٣١٠٥-٩٢٢ھ) - **الإيمان** - بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالہ، ١٣٠٦ھ.
- ٤٣- ابن حجر یقینی - ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن علی بن ججر (٩٠٩).

١٥٢٢-١٥٠٣ / ٩٧٣ - الصواعق المحرقة - تأهله، مصر: مكتبة القاهرة،

١٩٦٥ / ١٣٨٥

٤٤ - ابن هشام، ابو محمد عبد الملك حسيري (م ٢١٣ / ٨٢٨) - السيرة النبوية -  
بيروت، لبنان: دار الحبل، ١٣١١هـ.

٤٥ - ابو داود، سليمان بن اشعث سجستانی (٢٠٢-٢٧٥ / ٨١٧-٨٨٩) - السنن -  
بيروت، لبنان: دار الفکر، ١٣١٢هـ.

٤٦ - ابو سعood، محمد بن محمد عمادی (٨٩٨-٩٨٢ / ١٣٩٣-١٣٧٥) - إرشاد العقل  
للسليم الى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي سعود) - بيروت، لبنان: دار احياء  
التراث العربي -

٤٧ - ابو علاء مبارك پوری، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (١٢٨٣-١٣٥٣هـ) - تحفة  
الأحوذی - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية -

٤٨ - ابو عوانة، يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بن زيد نيساپوری (٢٣٠-٣١٦ / ٨٣٥-٩٢٨) - المستند - بيروت، لبنان: دار المعرفة، ١٩٩٨ء.

٤٩ - ابو قحيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران اصبهاني (٣٣٦)  
٩٣٠ / ٩٢٨-١٠٣٨ء) - حلية الأولياء و طبقات الأصفياء - بيروت،  
لبنان: دار الكتاب العربي، ١٩٨٠هـ.

٥٠ - ابو قحيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران اصبهاني (٣٣٦)  
٩٣٠ / ٩٢٨-١٠٣٨ء) - المستند المستخرج على صحيح مسلم -  
بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٩٩٦ء.

٥١ - ابو يحيى، احمد بن علي بن شنى بن يحيى بن عيسى بن هلال موصى تمى (٢١٠-٣٠٧هـ)  
٨٢٥ / ٩١٩ء) - المستند - دمشق، شام: دار المأمون للتراث، ١٣٠٣هـ.

- ٥٢- ابو يعلي، احمد بن علي بن شئي بن يحيى بن عيسى بن هلال موصلى تيمى (٢٠٧-٣٠٧هـ).  
المعجم - فیصل آباد، پاکستان: إداررة العلوم الأثرية، ٢٠١٤هـ.
- ٥٣- احمد بن خبل، ابو عبد الله بن محمد (١٦٣-٢٣١هـ/٨٥٥-٨٠٧هـ). - فضائل الصحابة - بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله.
- ٥٤- احمد بن خبل، ابو عبد الله بن محمد (١٦٣-٢٣١هـ/٨٥٥-٨٠٧هـ). - المسند -  
بيروت، لبنان: المكتبة الاسلامي، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨.
- ٥٥- ازدي، ربيع بن حبيب بن عمر بصرى، **الجامع الصحيح مسنّد الإمام الربيع**  
بن حبيب - بيروت، لبنان، دار الحكمة، ١٣١٥هـ.
- ٥٦- إسماعيل، ابو بكر احمد بن ابراهيم بن اسمايل اسمايلي، **معجم الشيوخ أبي**  
**بكر الإسماعيلي** - مدينة نوره، سعودي عرب، مكتبة العلم والحكم، ١٣١٠هـ.
- اندسى، عمر بن علي بن احمد الوادياشى (٢٣٧-٨٠٣هـ). - **تحفة المحتاج إلى**  
**أدلة المنهاج** - مكتبة المكرّمة، سعودي عرب: دار حراء، ١٣٠٢هـ.
- ٥٧- بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسمايل بن ابراهيم بن مغيرة (١٩٣-٢٥٦هـ/٨١٠-٨٧٠هـ). - **الأدب المفرد** - بيروت، لبنان: دار البشائر الاسلامية،  
١٣٠٩هـ/١٩٨٩.
- ٥٨- بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسمايل بن ابراهيم بن مغيرة (١٩٣-٢٥٦هـ/٨١٠-٨٧٠هـ). - **التاريخ الكبير** - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية -
- ٥٩- بخارى، ابو عبد الله محمد بن اسمايل بن ابراهيم بن مغيرة (١٩٣-٢٥٦هـ/٨١٠-٨٧٠هـ). - **الجامع الصحيح** - بيروت، لبنان + دمشق، شام: دار القلم،  
١٣٠١هـ/١٩٨١.
- ٦٠- بزار، ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بصرى (٢١٠-٢٩٢هـ/٨٢٥-٩٠٥هـ).

- المسند بيروت، لبنان: ١٤٠٩ـ.
- ٦١ـ. بغوي، ابو محمد حسين بن مسعود بن محمد (٢٣٦ـ٥٥٦/١٠٣٣ـ١١٢٢ـ). شرح السنة. بيروت، لبنان: المكتب الاسلامي، ١٤٠٣ـ.
- ٦٢ـ. ببيهي، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (٣٨٣ـ٣٥٨/٩٩٣ـ).
- ٦٣ـ. ببيهي، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (٣٨٣ـ٣٥٨/٩٩٣ـ).
- ٦٤ـ. ببيهي، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (٣٨٣ـ٣٥٨/٩٩٣ـ).
- ٦٥ـ. ببيهي، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (٣٨٣ـ٣٥٨/٩٩٣ـ).
- ٦٦ـ. ببيهي، ابو بكر احمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى (٣٨٣ـ٣٥٨/٩٩٣ـ).
- ٦٧ـ. ترمذى، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوره بن موسى بن خحاح سلمى (٢١٠ـ٢٢٩/٥ـ).
- ٦٨ـ. حارث، ابن ابي اسامه (٢٨٢ـ١٨٢/ـ). بغية الباحث عن زوائد المسند الحارث. مدینة منوره، سعودي عرب: مركز خدمة النّة والسيرّة النبوّية، ١٤٩٢ـ.

- ٦٩ - حاكم، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (٣٢١ـ٩٣٣/٥٢٠٥ـ٩٣٣) - المستدرک على الصحيحين - بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ / ١٩٩٠م.

٧٠ - حاكم، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (٣٢١ـ٩٣٣/٥٢٠٥ـ٩٣٣) - المستدرک على الصحيحين - مكة، سعودي عرب: دار ال�ازل لنشر والتوزيع -.

٧١ - حسام الدين هندي، علاء الدين على متقي (٩٧٥ـ١٤٩٥) - كنز العمال - بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.

٧٢ - حسني، ابراهيم بن محمد (١٠٥٣ـ١٤١٢هـ) - البيان و التعريف - بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، ١٤٣٠هـ.

٧٣ - حكيم ترمذى، ابو عبد الله محمد بن علي بن حسن بن بشير - نوادر الأصول في احاديث الرسول - بيروت، لبنان: دار الجليل، ١٤٩٢هـ.

٧٤ - حلبي، علي بن برهان الدين (١٣٠٣هـ) - السيرة الحلبية - بيروت، لبنان: دار المعرفة، ١٤٠٠هـ.

٧٥ - حلبي، ابراهيم بن محمد بن سبط ابن الحجبي الطراطبى (٧٥٣ـ٨٣١هـ) - الكشف في الحديث رمي يوضع الحديث - بيروت، لبنان: مكتبة النهضة العربية، ١٤٣٧هـ / ١٩٨٧م.

٧٦ - حميدى، ابو بكر عبد الله بن زير (١٩٣٢ـ٨٣٢هـ) - المسند - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية + قاهره، مصر: مكتبة لمنشى -.

٧٧ - خطيب بغدادى، ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدى بن ثابت (٣٩٢ـ١٠٠٢هـ) - تاريخ بغداد - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية -.

- ٧٨-. خطيب بغدادي، ابوكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدى بن ثابت (٣٩٢ـ١٠٠٢هـ). الكفاية في علم الرواية. مدينة منوره، سعودي عرب: المكتبة العلمية.
- ٧٩-. خطيب بغدادي، ابوكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدى بن ثابت (٣٩٢ـ١٠٠٢هـ). موضع أوهام الجمع والتفرقة. بيروت، لبنان: دار المعرفة ١٣٠٧هـ.
- ٨٠-. خلال، احمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، أبوكر (٣٣٣ـ٥٢٥هـ). السنة. رياض، سعودي عرب: ١٣١٠هـ.
- ٨١-. دارمي، ابومحمد عبد الله بن عبد الرحمن (١٨١ـ٥٢٥٥هـ). السنن. بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، ١٣٠٧هـ.
- ٨٢-. قطني، ابوالحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدى بن مسعود بن نعما (٣٠٦ـ٩٩٥هـ). السنن. بيروت، لبنان: دار المعرفة، ١٣٨٦هـ.
- ٨٣-. ديلي، ابوشجاع شيروديه بن شهزادار بن شيروديه بن فاخروهadiani (٢٢٥ـ٥٠٩هـ). الفردوس بمؤلف الخطاب. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٩٨٦هـ.
- ٨٤-. ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد الذهبي (٢٧٣ـ٢٧٣هـ). ميزان الاعتدال في نقد الرجال. بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٩٩٥هـ.
- ٨٥-. ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد الذهبي (٢٧٣ـ٢٧٣هـ). سيو أعلام النبلاء. بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، ١٣١٣هـ.
- ٨٦-. ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد الذهبي (٢٧٣ـ٢٧٣هـ). تذكرة الحفاظ.
- ٨٧-. رویانی، ابوکبر فی بن هارون (٥٣٠هـ). المسند. قاهره، مصر: مؤسسه قرطبه.

-١٩٦-

- ٨٨- زخيري، ابو القاسم محمد بن عمر (٥٣٨هـ). مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة. بيروت، لبنان: دار الكتب الحكمية.
- ٨٩- زيلي، ابو محمد عبد الله بن يوسف حنفي (٢٢٧هـ). نصب الراية لأحاديث الهدایة. مصر، دار الحديث، ٧٠٥هـ.
- ٩٠- رازى، محمد بن عمر بن حسن بن حسين بن علي تيجي (٢٠٦هـ - ١٢١٠ءـ). الفسیر الکبیر. تهران، ایران: دارالکتب العلمیه.
- ٩١- سخاوى، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (٨٣١هـ - ٩٠٢هـ). استجلاب ارتقاء الفرف بحب أقرباً الرسول وذوى الشرف. مكتبة الملك، رياض، سعودي عرب: فهد الوطنية، ١٣٢١هـ.
- ٩٢- سعيد بن منصور، ابو عثمان الجراسى، (م ٢٢٤هـ)، السنن. رياض، سعودي عرب: دار العصياني، ١٣١٣هـ.
- ٩٣- سيفوطى، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابى كبر بن محمد بن ابى كبر بن عثمان (٨٢٩هـ - ١٢٣٥ءـ). الإتقان في علوم القرآن. مطبعة امير، منشورات الرضى بيدار.
- ٩٤- سيفوطى، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابى كبر بن محمد بن ابى كبر بن عثمان (٨٣٩هـ - ١٢٢٥ءـ). تاريخ الخلفاء. بغداد، عراق: مكتبة الشرق الجديد.
- ٩٥- سيفوطى، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابى كبر بن محمد بن ابى كبر بن عثمان (٨٣٩هـ - ١٢٣٥ءـ). الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- ٩٦- سيفوطى، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابى كبر بن محمد بن ابى كبر بن عثمان

(٨٣٩-٩١١ هـ / ١٥٠٥-١٢٣٥ م) - الماوى للفتاوى - مصر: مطبعة السعادة، ٨٣٧ هـ

- ١٩٥٩

- ٩٧ - سيفي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان (٨٣٩-٩١١ هـ / ١٥٠٥ م) - الدر المنثور في التفسير بالتأثر - بيروت، لبنان: دار المعرفة -

- ٩٨ - سيفي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان (٨٣٩-٩١١ هـ / ١٥٠٥ م) - لباب النقول في اسباب النزول - قاهره، مصر: مطبعه مصطفى البابي الحلمي، ١٣٥٣ هـ / ١٩٣٥ م -

- ٩٩ - سيفي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان (٨٣٩-٩١١ هـ / ١٥٠٥ م) - شرح سنن ابن ماجة - کراچی، پاکستان: قدیمی کتب خانہ -

- ١٠٠ - شاشی، ابوسعید يثيم بن كلیب بن شریع (م ٩٢٦ / ٥٣٢٥ هـ) - المسند - مدینہ منورہ، سعودی عرب: مکتبۃ العلوم والحكم، ١٤٢٠ هـ -

- ١٠١ - شافعی، ابوعبد الله محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع قرشی (١٤٥٠-٢٠٢٣ هـ) - المسند - بيروت لبنان: دارالكتب العلمية

- ١٠٢ - شافعی، ابوعبد الله محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع قرشی (١٤٥٠-٢٠٢٣ هـ) - السنن المأثورة - بيروت لبنان: دار المعرفة، ١٤٠٦ هـ -

- ١٠٣ - شوكاني، محمد بن علي بن محمد (١٢٣٢-١٢٥٠ هـ / ١٨٣٢-١٨٥٠ م) - در المسحابة في مناقب القرابة والصحابة - لاھور، پاکستان: مکتبہ، سید احمد شہید، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م -

- ١٠٤ - شوكاني، محمد بن علي بن محمد (١٢٣٦-١٢٥٠هـ). نيل الأوطار  
شرح منتقى الأخبار. بيروت، لبنان: دار الفكر، ١٣٠٢هـ / ١٩٨٢ءـ.
- ١٠٥ - شيباني، محمد بن حسن (١٣٢٦هـ). الموطأ. كراچی، پاکستان: میر محمد کتب خانہ۔
- ١٠٦ - شيباني، ابو بکر احمد بن عمرو بن خاک بن مخلد (٢٠٦٧-٢٨٢هـ / ٩٠٠-٨٢٢ءـ). الآحاد و المثانی. ریاض، سعودی عرب: دار الرایہ، ١٣١١هـ / ١٩٩١ءـ.
- ١٠٧ - صیداوی، محمد بن احمد بن جعیج، أبو الحسین (٣٠٥-٢٠٢هـ). معجم الشیوخ. بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٣٠٥هـ.
- ١٠٨ - طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠-٢٦٣هـ / ٨٧٣-٨٧٦ءـ). مستند الشاميين. بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٣٠٥هـ / ١٩٨٣ءـ.
- ١٠٩ - طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠-٢٦٣هـ / ٨٧٣-٨٧٦ءـ). المعجم الأوسط. ریاض، سعودی عرب: مکتبۃ المعارف، ١٣٠٥هـ / ١٩٨٥ءـ.
- ١١٠ - طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠-٢٦٣هـ / ٨٧٣-٨٧٦ءـ). المعجم الصغير. بيروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ١٣٠٣هـ / ١٩٨٣ءـ.
- ١١١ - طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠-٢٦٣هـ / ٨٧٣-٨٧٦ءـ). المعجم الكبير. موصل، عراق: مطبعة الزهراء الحدبیة.
- ١١٢ - طبراني، سليمان بن احمد (٢٦٠-٢٦٣هـ / ٨٧٣-٨٧٦ءـ). المعجم الكبير. قاهرہ، مصر: مکتبۃ ابن تیمیہ.
- ١١٣ - طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید (٢٢٣-٣١٠هـ / ٨٣٩-٩٢٣ءـ). تاريخ الأئمہ والملوک. بيروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ١٣٠٧هـ / ١٩٨٧ءـ.
- ١١٤ - طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید (٢٢٣-٣١٠هـ / ٨٣٩-٩٢٣ءـ). جامع البيان

- ١١٥ - طبرى، ابو عباس احمد بن محمد، (٢٩٢ھ). - ذخائر العقى فى مناقب ذوى القربي - دار الكتب الحصرية.
- ١١٦ - طبرى، ابو عباس احمد بن محمد، (٢٩٣ھ). - الرياض النصورة - بيروت، لبنان: دار الغرب الاسلامى، ١٩٩٦ء.
- ١١٧ - طحاوى، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبد الملك بن سلمه (٢٢٩ھ). - شرح معانى الآثار - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٣٩٩ھ.
- ١١٨ - طحاوى، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبد الملك بن سلمه (٢٢٩ھ). - مشكل الآثار - بيروت، لبنان: دار صادر.
- ١١٩ - طيالى، ابو داود سليمان بن داود جارود (١٣٣٥ھ/٢٠٢٧ھ). - المسند - بيروت، لبنان: دار المعرفة.
- ١٢٠ - عبد الله بن احمد بن حنبل (٢٩٠ھ/١٣٠٢ھ). - السنة - دمام: دار ابن قيم.
- ١٢١ - عبد بن حميد، ابو محمد بن نصر الكنى (٢٣٩ھ/٨٢٣ء). - المسند - تاہرہ، مصر: مکتبۃ السنۃ، ١٣٠٨ھ/١٩٨٨ء.
- ١٢٢ - عبدالرازاق، ابو بکر بن همام بن نافع صناعی (١٢٤ھ/٢١١-٢٣٢ھ). - المصنف - بيروت، لبنان: المكتب الاسلامي، ١٣٠٣ھ.
- ١٢٣ - عجلوني، ابو الفداء اسماعيل بن محمد بن عبد الهادى بن عبد لغنى جراحى (٧٨٧ھ/١١٢٢). - كشف الخفا و مزيل الألباس - بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٣٠٥ھ.
- ١٢٤ - عظيم آبادى، ابو الطيب محمد شمس الحق - عون المعبد شرح سنن أبي داود -

- ١٢٥ - بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٣١٥هـ.
- ١٢٦ - قرطبي، ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن يحيى بن مفرج اموي (٢٨٣-٣٨٠هـ). **الجامع لأحكام القرآن**. بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي.
- ١٢٧ - قزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي. **التدوين في اخبار قزوين**. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٩٨٧ء.
- ١٢٨ - قضاعي، ابو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر (٣٥٣-٢٥٣هـ). **مسند الشهاب**. بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٣٠٧هـ.
- ١٢٩ - كتافى، احمد بن ابي بكر بن اسمايل (٢٢-٨٢٠هـ). **مصباح الزجاجة في زواائد ابن ماجة**. بيروت، لبنان، دار العربية، ١٣٠٣هـ.
- ١٣٠ - الاكائى، ابو قاسم هبة الله بن حسن بن منصور (٣١٨هـ). **شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة**. رياض، سعودي عرب، دار طيبة، ١٣٠٢هـ.
- ١٣١ - مالك، ابن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن حارث الحنفي (٩٣-١٧٩هـ). **الموطا**. بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، ١٣٠٦هـ.
- ١٣٢ - مروزى، محمد بن نصر بن الحجاج، ابو عبد الله (٢٩٣-٢٩٢هـ). **السنة**. بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٣٠٨هـ.
- ١٣٣ - محمر بن راشد الأزدي (١٥١هـ). **الجامع**. بيروت، لبنان: المكتب الإسلامي، ١٩٨٥ء.

١٣٠٣-

- ١٣٤ - **ظَيْمُ بْنُ حَمَادٍ** (م ٢٨٨) - **الْفَقْنُ** - تَاهِرَة، مِصْر: بَيْرُوت، لَبَنَان: مَوْسِسَةُ الْكِتَبِ الْشَّافِعِيَّةِ، ١٣٠٨-.
- ١٣٥ - **مَزَرِيُّ**، ابْوُ الْحَجَاجِ يُوسُفُ بْنُ زَكِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يُوسُفِ بْنِ عَلِيٍّ (م ٢٥٣- ١٣٢٦) - **تَهْذِيبُ الْكَمَالِ** - بَيْرُوت، لَبَنَان: مَوْسِسَةُ الرِّسَالَةِ، ١٣٠٠-.
- ١٣٦ - **مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَاجِ قَشِيرِي** (م ٢٠٢- ٢٢١) - **الصَّحِيفَةُ** - بَيْرُوت، لَبَنَان: دَارِ احْيَاءِ التِّرَاثِ الْعَرَبِيِّ -.
- ١٣٧ - **مَقْدَسِيُّ**، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَنْبَلِي (م ٢٣٣) - **الْأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةُ** - مَكْرُمَة، سُعُودِيُّ عَرَب: مَكْتَبَةُ الشَّهْضَةِ الْعَدْسِيَّةِ، ١٣١٠-.
- ١٣٨ - **مَقْدَسِيُّ**، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَنْبَلِي (م ٢٣٣) - **الْأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةُ** - فَضَّلَ الْمَقْدَسِ - شَام: دَارِ الْفَكْرِ، ١٣٠٥-.
- ١٣٩ - **مَقْرِيُّ**، ابْوُ كَبِيرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ ابْرَاهِيمَ (م ٢٨٥- ٣٨١) - **الرَّوْخَصَةُ فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ** - رِيَاض: سُعُودِيُّ عَرَب، ١٣٠٨-.
- ١٤٠ - **مَقْرِيُّ**، ابْوُ عُمَرٍ وَعُثْمَانَ بْنَ سَعِيدَ دَانِي (م ٣٢٢- ٣٧١) - **السَّنَنُ الْوَارَدَةُ فِي الْفَقْنِ** - رِيَاض: سُعُودِيُّ عَرَب، ١٣١٢-.
- ١٤١ - **مَنَاوِيُّ**، عَبْدُ الرَّوْفَ بْنُ تَاجِ الْعَارِفِينَ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ زَيْنِ الْعَابِدِينَ (م ٩٥٢- ١٠٣١) - **فِي ضِيقِ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ** - مِصْر: كِتَبَةُ تِجَارِيَّةٍ كَبِيرَى، ١٣٥٦-.
- ١٤٢ - **مَنْذُرِيُّ**، ابْوُ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامَةِ بْنِ سَعْدٍ (م ٥٨١- ١٢٢١) - **الْتَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ** - بَيْرُوت، لَبَنَان: دَارُ الْكِتَبِ، ١٢٥٨- ١١٨٥-.

العلمية، ١٤٣٧ـ.

- ١٤٣ - نسائي، احمد بن شعيب (٢١٥ـ٨٣٠/٩١٥ء). خصائص امير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، ١٤٢٨ـ.
- ١٤٤ - نسائي، احمد بن شعيب (٢١٥ـ٨٣٠/٩١٥ء). السنن. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤١٦ـ.
- ١٤٥ - نسائي، احمد بن شعيب (٢١٥ـ٨٣٠/٩١٥ء). السنن الكبرى. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤١١ـ.
- ١٤٦ - نسائي، احمد بن شعيب (٢١٥ـ٨٣٠/٩١٥ء). فضائل الصحابة. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ـ.
- ١٤٧ - نسائي، احمد بن شعيب (٢١٥ـ٨٣٠/٩١٥ء). عمل اليوم والليلة. بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧ـ.
- ١٤٨ - نووى، ابو زكريا، يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعه بن حزام (٢٣١ـ١٢٣٣/٦٧ـ٨١٢ـ٨١ء). شرح صحيح مسلم. كراچي، باكستان: قدمي كتب خانه، ١٤٢٥ـ.
- ١٤٩ - نووى، ابو زكريا، يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعه بن حزام (٢٣١ـ١٢٣٣/٦٧ـ٨١٢ـ٨١ء). تهذيب الأسماء واللغات. بيروت، لبنان: دار الفكر، ١٩٩٦ـ.
- ١٥٠ - هناد، هناد بن سري كوفي (١٥٢ـ٢٢٣هـ). الزهد. كويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ١٤٠٢ـ.
- ١٥١ - بيتحى، نور الدين ابو الحسن علي بن ابي بكر بن سليمان (٢٣٥ـ١٣٣٥/٨٠ـ٨١٣ـ١٤٠٥ء). مجمع الزوائد. قاهره، مصر: دار الريان للتراث + بيروت، لبنان:

دار الكتاب العربي، ١٣٠٧/١٩٨٧ء.

- ١٥٢ - يُشْتَرِي، نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان (١٣٣٥ـ١٣٣٥هـ) - موارد الظمان إلى زوايد ابن حبان - بروت، لبنان: دار الكتب العلمية -

